

صحابہ
رضی اللہ عنہم

اور اتباعِ سنت

ابوزید ضمیر

Sahaba

رضی اللہ عنہم

aur

Itteba-e-Sunnat

رسول ﷺ نے جو دیا وہ سب لینا ❀

قال تعالى:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ

فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا. [الحشر: ٧]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

جو کچھ یہ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ [الحشر: ٧]

❀ Rasool ﷺ ne jo diya woh sab lena.

Allah Ta'ala ne farmaya:

Jo kuchh yeh Rasool tumhen den usey le lo, aur jis cheez se tumhen mana' kar den us se ruk jao. [Al-Hashr 7]

❀ طاعت رسول و اتباع رسول

قال تعالى:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. [آل عمران ٣١ - ٣٢]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(اے نبی) آپ فرمادیجئے، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی

مغفرت فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ (اے نبی)، آپ یہ بھی فرمادیجئے: "اللہ اور اس کے

رسول کی فرمانبرداری کرو۔" پھر اگر یہ منہ موڑ کر چل دیں تو (یاد رکھو)، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ [آل عمران ٣١ - ٣٢]

❀ Taa'at-e-Rasool wa Itteba-e-Rasool

Allah Ta'ala ne farmaya:

(Aye Nabi ﷺ) Aap farma dijiye, agar tum waqai Allah se mohabbat karte ho to meri iteba'a karo, Allah bhi tum se mohabbat karega aur tumhare gunaaho ki magfirat farmayega, kyunke Allah Ta'ala bada magfirat farmane wala, rahem farmane wala hai. (Aye Nabi ﷺ) Aap yeh bhi farma dijiye Allah aur uske Rasool ki farmabardari karo. Phir agar yeh muh mod kar chal den to (yaad rakho,) Allah kafiron se mohabbat nahin karta.

[Aale Imran 31-32]

✽ اختلاف کو کتاب و سنت پر پیش کرنا

قال تعالى:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. [النساء ٥٩]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اے ایمان والو، اللہ کی مانو، رسول کی مانو اور ان لوگوں کی بھی (مانو) جو تم میں سے معاملات کا اختیار رکھتے ہیں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس اختلاف کو (فیصلے کیلئے) اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹادو۔ یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھی چیز ہے۔ [النساء ٥٩]

✽ Ikhtilaf ko Kitab-o-Sunnat par pesh karna.

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aye imaan walo, Allah ki maano, Rasool ki maano aur un logon ki bhi (maano) jo tum mein se muamlaat ka ikhtiyar rakhte hain. Phir agar tumhare darmiyan kisi cheez mein ikhtilaf ho jaaey to agar tum waaqai Allah aur akhirat ke din par imaan rakhte ho to us ikhtilaf ko (faisle ke liye) Allah aur uske Rasool ki taraf lauta do. Yahi behtar hai aur anjaam ke etebaar se bhi achchi cheez hai. [An-Nisa 59]

✽ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اختیار باقی نہیں رہتا

قال تعالى:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ

إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا. [الأحزاب ٣٦]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کیلئے ہر گز بھی اس بات کی گنجائش نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملہ میں فیصلہ دے دیں تو اس کے بعد بھی انہیں اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ (یاد رکھو،) جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ [الأحزاب ٣٦]

✽ Allah aur uske Rasool ke faisle ke baad ikhtiyar baaqi nahin rahta

Allah Ta'ala ne farmaya:

Kisi momin mard aur mominah aurat ke liye hargiz bhi is baat ki gunjaish nahin ke Allah aur uska Rasool kisi muamla mein faisla de den to iske baad bhi unhen us muamle mein koi ikhtiyar baqi rah jaaey. (Yaad rakho,) jo bhi Allah aur uske Rasool ki nafarmani karey woh khuli gumraahi mein ja pada. [Al-Ahzaab 36]

✽ جو رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کے ایمان کا حال

قال تعالى:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. [النساء ٦٥]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ہر گز نہیں، (اے نبی،) آپ کے رب کی قسم، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے آپسی اختلافات میں آپ کو حکم (یعنی فیصلہ کرنے والا) نہ بنائیں، پھر آپ جو کچھ فیصلہ کریں اس سے اپنے جی میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور پوری طرح آپ کے فیصلے

کو مان لیں۔ [النساء ٦٥]

✽ Jo Rasool ke faisle par raazi na ho uske imaan ka haal

Allah Ta'ala ne farmaya:

Hargiz nahin, (Aye Nabi,) Aap ke Rabb ki qasam, woh log imaan laane wale nahin ho satke jab tak ke woh apne aapsi ikhtilafat mein Aap ko hakam (ya'ni faisla karne wala) na banayen, phir Aap jo kuchh faisla karen us se apne ji mein koi tangi mehsoos na karen aur poori tarah Aap ke faisle ko maan len. [An-Nisa 65]

۱. حدیث معلوم کرنے کی حرص

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ

أَنْ لَا يَسْأَلْنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلُ مِنْكَ،

لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ،

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ - أَوْ نَفْسِهِ -». [خ: العلم ۹۹]

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ، قیامت کے دن آپ کی شفا ریش پانے والا سب سے سعادت مند انسان کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ، حدیث کے تعلق سے تمہاری حرص دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین تھا کہ تم سے پہلے یہ سوال مجھ سے کوئی اور نہیں پوچھے گا۔ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا سب سے سعادت مند انسان وہ ہوگا جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ [بخاری]

1. Hadees maloom karne ki Hirs

Abu Hurairah رضی اللہ عنہ farmaatey hain:

Main ne kaha: Aye Allah ke Rasool ﷺ, Qiyamat ke din aap ki shifarish paane wala sab se sa'adat mand insaan kaun hoga? Aap ne farmaya: Aye Abu Hurairah, hadees ke talluq se tumhari hirs dekh kar mujhe is baat ka yaqeen tha ke tum se pahle yeh sawal mujh se koi aur nahin poochhega. Qiyamat ke din meri shafa'at paane wala sab se sa'adat mand insaan woh hoga jis ne dil ke ikhlaas ke sath laa ilaaha illallah (لا اله الا الله) kaha ho.

[Bukhari]

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَشَهِدَتْهُ أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

وَإِذَا غَبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَشَهِدَهُ أَتَانِي بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

[خ: أخبار الآحاد ۷۲۵۶ - م: الطلاق ۳۴ - (۱۴۷۹)]

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ایک انصاری صحابی تھے۔ (ہماری ترتیب یہ تھی کہ) جس دن نبی ﷺ کی مجلس میں وہ غیر حاضر رہتے اس دن میں آپ کی مجلس میں چلا جاتا اور جو کچھ اس دن نبی ﷺ کی مجلس میں ہوا اکر انھیں بتاتا۔ اور جس دن میں غیر حاضر رہتا وہ اس مجلس میں جاتے اور نبی ﷺ کی باتیں آکر مجھے سناتے۔ [بخاری و مسلم]

2. Nabi ﷺ ki baatein sunne ka Ehtemaam

Umar ibne Khattab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ farmaatey hain:

Ek Ansari sahabi thhey. [Hamaari tarteeb yeh thi ke] Jis din Nabi ﷺ ki majlis mein woh gair hazir rehte us din main aap ki majlis mein chala jaata aur jo kuchh us din aap ﷺ ki majlis mein huwa aakar unhen batata. Aur jis din main gair hazir rehte woh us majlis mein jaate aur Nabi ﷺ ki baatein aakar mujhe sunaate. [Bukhari wa Muslim]

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّهُ سَمِعَهُ يُسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ:
مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الطَّاعُونَ؟
فَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«الطَّاعُونَ رَجُزٌ أَوْ عَذَابٌ أُرْسِلَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ
- أَوْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ -
فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَارِضٌ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ،
وَإِذَا وَقَعَ بَارِضٌ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»
[خ: أحاديث الأنبياء ۳۴۷۳ - م: السلام ۹۲ - (۲۲۱۸)] واللفظ لمسلم

عامر بن سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ:

انہوں نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص ﷺ کو سنا، وہ حضرت اسامہ بن زید ﷺ سے پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے طاعون کے بارے میں اللہ کے رسول ﷺ سے کون سی حدیث سنی ہے؟ اس پر اسامہ ﷺ نے بتایا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: طاعون ایک عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بھیجا تھا۔ پس، جب تم سنو کہ کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس علاقے میں نہ جاؤ اور اگر خود تمہارے علاقے میں طاعون پھیل جائے تو پھر اپنے علاقے سے بھاگ کر باہر نہ نکلو۔ [بخاری و مسلم]

3. Ek dusre se Nabi ﷺ ki Hadeesen maloom karna

Aamir ibne Saa'd ibne Abi Waqqas farmaatey hain ke:

Unhon ne apne waalid Saa'd ibne Abi Waqqas ﷺ ko suna, woh Usama ibne Zaid ﷺ se poochh rahe thhey ke unhon ne ta'oon ke baare mein Allah ke Rasool ﷺ se kaun si hadees suni hai? Is par Usama ﷺ ne bataya ke Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya : Ta'oon ek azaab tha jo Allah Ta'ala ne Bini Isra'eel par bheja tha. Pas, jab tum suno ke kisi ilaaqey mein ta'oon ki waba phaili huwi hai to us ilaaqey mein na jao aur agar khud tumhare ilaaqey mein ta'oon phail jaacy to phir apne ilaaqey se bhaag kar bahar na niklo. [Bukhari wa Muslim]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
بِتُّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةً وَالنَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا،
لَأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ ...

[خ: التوحيد ۷۴۵۲ - م: صلاة المسافرين وقصرها ۱۸۷ - (۷۶۳)] واللفظ للبخاري

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ:

ایک رات میں نے ام المومنین ميمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر قیام کیا، اس رات اللہ کے رسول ﷺ کا قیام بھی انہی کے ہاں تھا، صرف اس لیے تاکہ میں دیکھ لوں کہ اللہ کے رسول ﷺ رات کی نماز کس طرح ادا کرتے ہیں۔ [بخاری و مسلم]

4. Nabi ﷺ ki sunnat janne ka shauq

Ibne Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فرمااتے ہیں کہ:

Ek raat main ne ummul momineen Maimunah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ke ghar qiyam kiya, us raat Allah ke Rasool ﷺ ka qiyam bhi unhi ke haan tha, sirf is liye taake main dekh loon ke Allah ke Rasool ﷺ raat ki namaz kis tarah ada karte hain. [Bukhari wa Muslim]

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟
فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾
وَ ﴿اِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [م: صلاة العيدين ۱۴ - (۸۹۱)]

عبيد اللہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ:

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: اللہ کے رسول ﷺ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نمازوں میں کیا قرأت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: آپ ﷺ ان دونوں نمازوں میں ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ اور ﴿اِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ یہ دونوں سورتیں پڑھتے تھے۔ [مسلم]

Ubaidullah ibne Abdullah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فرمااتے ہیں کہ:

Umar ibne Khattab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ne hazrat Abu Waaqid Laisi se poochha: Allah ke Rasool ﷺ Eid ul Az'ha aur Eid ul Fitr ki namazon mein kya qirat karte thhey? Unhon ne kaha: Aap ﷺ in donon namazon mein ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ aur ﴿اِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ yeh donon suraten padhte thhey. [Muslim]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما قَالَ:
 لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ:
 «هَلُمَّ يَا فُلَانُ، فَلْنَطْلُبِ الْعِلْمَ، فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْيَاءُ»،
 قَالَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، تَرَى النَّاسَ يَخْتَأِجُونَ إِلَيْكَ
 وَفِي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ فِيهِمْ؟
 قَالَ: فَتَرَكْتُ ذَلِكَ وَأَقْبَلْتُ أَطْلُبُ؛
 إِنْ كَانَ الْحَدِيثُ لَيَبْلُغُنِي عَنِ الرَّجُلِ
 مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
 فَآتِيهِ [وَهُوَ قَائِلٌ]،^(۱) فَأَجْلِسُ بِبَابِهِ [فَأَتَوْسَدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ]،^(۲)
 فَتَسْفِي الرِّيحُ عَلَيَّ وَجْهِي [الثَّرَابُ]،^(۱)
 فَيَخْرُجُ إِلَيَّ [فَيَرَانِي]،^(۱) فَيَقُولُ: يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا جَاءَ بِكَ؟ مَا حَاجَتُكَ؟
 فَأَقُولُ: «حَدِيثٌ بَلَّغَنِي تَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»
 فَيَقُولُ: «أَلَا أُرْسَلَتْ إِلَيَّ [فَأَتَيْكَ]؟»^(۱)
 فَأَقُولُ: «[لَا]،^(۱) أَنَا أَحَقُّ أَنْ آتَيْكَ» [فَأَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ]،^(۱)
 قَالَ: فَبَقِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ حَتَّى أَنْ النَّاسَ اجْتَمَعُوا عَلَيَّ،
 [وَبِي رِوَايَةٌ: فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ يَرَانِي
 وَقَدْ ذَهَبَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَاحْتِجَاجُ إِلَيَّ النَّاسِ]،^(۳)
 فَقَالَ: «هَذَا الْفَتَى كَانَ أَعْقَلَ مِنِّي». [ك ٦٢٩٤] قال الذهبي: (على شرط البخاري)

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ:

جب اللہ کے رسول ﷺ کی وفات ہوئی تو میں نے ایک انصاری صاحب سے کہا: اے فلاں، آؤ ہم علم کی طلب میں لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ابھی نبی ﷺ کے بہت سے صحابہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگے: اے ابن عباس، تمہارا حال بھی عجیب ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اتنے سارے صحابہ کے ہوتے ہوئے لوگوں کو تمہارے علم کی ضرورت محسوس ہوگی؟ جب انھوں نے اس طرح کہا تو میں نے ان صاحب کو (ان کے حال پر) چھوڑ دیا اور خود علم کی طلب میں لگ گیا۔ پس جب بھی مجھے کسی صحابی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ ان کے پاس اللہ کے نبی ﷺ کی کوئی حدیث ہے جو انہوں نے خود آپ ﷺ سے سنی ہے تو میں فوراً ان کے گھر پہنچ جاتا۔ اگر وہ دوپہر میں آرام کر رہے ہوتے تو میں وہیں ان کے دروازے کے پاس اپنی چادر کا تکیہ بنائے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا۔ ہوائیں دھول اور مٹی اڑا کر میرے چہرے پر

^۱ [می ۵۹۰] (وإسناده صحيح)

^۲ [می جامع] [می ۵۹۰] (وإسناده صحيح)

^۳ [جامع ۵۰۷] (إسناده صحيح)

تھیڑے لگاتی رہتیں۔ جب وہ صحابی باہر آتے تو مجھے دیکھ کر کہتے: اے اللہ کے رسول ﷺ کے چچا زاد بھائی، کیسے آنا ہوا؟ کیا کوئی کام تھا؟ میں کہتا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ﷺ سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے: آپ کسی کو بھیج دیتے، میں خود ہی آجاتا۔ میں کہتا: نہیں، بلکہ میں خود اس بات کا زیادہ حقدار تھا کہ آپ کے پاس آؤں۔ پس میں ان سے وہ حدیث معلوم کر لیتا۔ (ایک زمانہ اسی طرح گزر گیا۔) یہاں تک کہ وہ صاحب (جن سے شروعات میں طلب علم کی بات ہوئی تھی وہ بھی) اس وقت تک زندہ رہے جب خود انہوں نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ لوگ (علم کے لیے) میرے پاس جمع ہونے لگے ہیں۔ [ایک روایت میں ہے: یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ ان صاحب نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھ لیا کہ بہت سے صحابہ دنیا سے جا چکے ہیں اور لوگ علم کے معاملے میں میرے محتاج ہیں۔ اس وقت ان کی زبان سے یہی بات نکلی کہ: یہ نوجوان مجھ سے بھی زیادہ عقلمند تھا۔] [حاکم]

5. Jam'-e-Hadees mein mujaahada

Ibne Abbas ﷺ farmaatey hain ke:

Jab Allah ke Rasool ﷺ ki wafaat hui to main ne ek ansari sahab se kaha: Aye fulan, aao hum ilm ki talab mein lag jaate hain, is liye ke abhi Nabi ﷺ ke bahot se sahaba hamare darmiyan maujood hain. Is par woh kehne lagey: Aye Ibne Abbas, tumhara haal bhi ajeeb hai. Kya tum yeh samajhte ho ke itne saare sahaba ke hotay huwe logon ko tumhare ilm ki zaroorat mahsoos hogi? Jab unhon ne is tarah kaha to main ne un sahab ko (unke haal par) chhod diya aur khud ilm ki talab mein lag gaya. Pas, jab bhi mujhe kisi sahabi ke baarey mein maloom hota ke un ke paas Allah ke Nabi ﷺ ki koi hadees hai jo unhon ne khud aap ﷺ se suni hai to main fauran un ke ghar pahunch jaata. Agar woh dopahar mein aaraam kar rahe hotay to main wahein un ke darwaze ke paas apni chaadar ka takiya banaye tek laga kar baith jaata. Hawayen dhool aur mitti udakar mere chehre par thapede lagati rehtin. Jab woh sahabi bahar aate to mujhe dekh kar kehte: Aye Allah ke Rasool ﷺ ke chacha-zaad bhai, kaise aana huwa? Kya koi kaam tha? Main kehta: Mujhe maloom huwa hai ke aap Allah ke Rasool ﷺ se ek hadees riwayat karte hain. Woh kehte: Aap kisi ko bhej dete, main khud hi aa jaata. Main kehta : Nahin, balke main khud is baat ka ziyada haqdaar tha ke aap ke paas aon. Pas, main un se woh hadees maloom kar leta. (Ek zamana isi tarah guzar gaya.) Yahan tak ke woh sahab (jin se shuruaat mein talab e ilm ki baat hui thi woh bhi) us waqt tak zinda rahe jab khud unhon ne mujhe is haal mein dekha ke log (ilm ke liye) mere pass jama honay lagey hain. [Ek riwayat mein hai: Yahan tak ke ek zamana aisa bhi aaya ke un sahab apni aankhon se ye manzar bhi dekh liya ke bahot se sahaba duniya se ja chuke hain aur log ilm ke muamle mein mere mohtaaj hain.] Us waqt unki zaban sy yahi baat nikli ke: Yeh naujawan mujh se bhi ziyada aqalmand tha. [Haakim]

۶. حدیث کے لیے پر مشقت سفر کرنا

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه
 أَنَّهُ بَلَغَهُ حَدِيثٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ،
 «فَابْتَعْتُ بَعِيرًا، فَشَدَدْتُ إِلَيْهِ رَحْلِي، [ثُمَّ سَرْتُ إِلَيْهِ] ^(۱) شَهْرًا،
 حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ رضي الله عنه، فَبَعَثْتُ إِلَيْهِ أَنَّ جَابِرًا بِالْبَابِ،
 فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَقَالَ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَخَرَجَ فَأَعْتَنَقَنِي،
 قُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي [عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَظَالِمِ] ^(۲) لَمْ أَسْمَعُهُ،
 حَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ أَوْ تَمُوتَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
 «يَحْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ - أَوْ النَّاسَ - عُرَاةً غُرُلًا بُهْمًا»،
 قُلْتُ: مَا بُهْمًا؟ قَالَ: «لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ، فَيَنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعْدَ
 - أَحْسَبُهُ قَالَ: كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قُرْبَ - : أَنَا الْمَلِكُ، [أَنَا الدِّيَانُ] ^(۳)
 لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَأَحَدٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلَمَةٍ،
 وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَدْخُلُ النَّارَ وَأَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلَمَةٍ»،
 قُلْتُ: [وَفِي رَوَايَةٍ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،] ^(۴) وَكَيْفَ؟
 وَإِنَّمَا نَأْتِي اللَّهَ عُرَاةً بُهْمًا؟ قَالَ: «بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ».
 (خذ) [الأدب المفرد بتعليقات الألباني ۹۷۰] [خ تعليقا] [الصحيحه (۱/ ۳۰۱) تحت رقم ۱۶۰] (صحيح)

جابر بن عبد اللہ رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ:

انہیں معلوم ہوا کہ ایک صحابی ہیں جن کے پاس اللہ کے رسول ﷺ کی ایک حدیث ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے ایک اونٹ خرید اور ان صاحب کی طرف سامان سفر باندھا اور ایک مہینے کا سفر طے کر کے ملک شام پہنچ گیا۔ وہاں پہنچا تو وہ صاحب عبد اللہ بن انیس تھے۔ میں نے آدمی بھیجا اور بتایا کہ جابر دروازے پر کھڑا ہے۔ وہ آدمی واپس آیا اور پوچھا: کون؟ جابر بن عبد اللہ؟ میں نے کہا: ہاں۔ اس پر حضرت عبد اللہ بن انیس رضي الله عنه فوراً باہر آئے اور مجھ سے لپٹ کر معافہ کیا۔ میں نے کہا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول ﷺ سے ظلم کے بارے میں ایک حدیث سنی ہے جو میں نے نہیں سنی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں (اس حدیث کے سننے سے پہلے) مجھے یاپ کو موت نہ آجائے۔ انہوں نے فرمایا: میں نے اللہ کے نبی ﷺ کو فرماتے سنا: لوگ حشر میں برہنہ، بے ختنہ اور بُھمًا جمع کئے جائیں گے۔ میں نے پوچھا یہ بُھمًا کیا ہے؟ فرمایا: ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسی آواز سے پکارے گا جسے قریب و بعید سے سبھی

^۱ (ك جامع) [جامع ۵۶۵] (إسناده حسن والحديث صحيح)

^۲ (حم جامع) [جامع ۵۶۵] (إسناده حسن والحديث صحيح)

^۳ (حم ك جامع) [جامع ۵۶۵] (إسناده حسن والحديث صحيح) وذكره البخاري تعليقا في الصحيح في كتاب التوحيد: بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ...}

^۴ [الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي ۳۲]

لوگ سُن لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں مَلِک (بادشاہ) ہوں، میں دَيَّان (بدلہ دینے والا) ہوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جنتی جنت میں چلا جائے جبکہ کوئی جہنمی اس سے اپنے ظلم کا بدلہ طلب کر رہا ہو اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جہنمی جہنم میں چلا جائے جبکہ کوئی جنتی اس سے اپنے ظلم کا بدلہ طلب کر رہا ہو۔ فرماتے ہیں: میں نے پوچھا: [اور ایک روایت میں ہے لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول!] (اس دن بدلہ) کیسے (ملے گا) جبکہ لوگ برہنہ بے سر و سامان ہوں گے؟ فرمایا: نیکیوں اور گناہوں سے!

[الادب المفرد، بخاری تعلیقاً]

6. Hadees ke liye pur mashaqqat safar karna

Jabir ibne Abdullah ﷺ farmaatey hain ke:

Unhen maloom huwa ke ek sahabi hain jin ke paas Allah ke Nabi ﷺ ki ek hadees hai. Farmaatey hain: Main ne ek oont khareeda aur un sahab ki taraf samaan-e-safar baandha aur ek mahine ka safar tai karke Mulk-e-Shaam pahunch gaya. Wahan pahuncha to woh sahab Abdullah ibne Unais thhey. Main ne aadmi bheja aur bataya ke Jabir darwaze par khada hai. Woh aadmi wapas aaya aur poochha : Kaun, Jabir ibne Abdullah? Main ne kaha: Haan. Is par hazrat Abdullah ibne Unais fauran bahar aaye aur mujh se lipat kar muanaqa kiya. Main ne kaha: Mujhe maloom huwa hai ke aap ne Allah ke Rasool ﷺ se zulm se mutalliq ek hadees suni hai jo main ne nahin suni. Mujhe is baat ka dar tha ke kahin (is hadees ke sunne se pahle) meri ya aap ki maut na hojaye. Unhon ne farmaya: Main ne Allah ke Nabi ﷺ ko farmaatey suna: log hashr mein barhana, be khatna aur (بُهْمًا) *buhman* jama kiye jayenge. Main ne poochha yeh (بُهْمًا) *buhman* kya hai? Farmaya: Unke paas kuchh bhi na hoga. Allah Ta'ala unhen ek aisi aawaz se pukare ga jise qareeb-wa-ba'eed se bhi sun lenge. Farmaye ga: "Main Malik (badshah) hoon, main Dayyan (badla dene wala) hoon. Aisa ho hi nahin sakta ke koi jannati jannat mein chala jaaey jabke koi jahannami us se apne zulm ka badla talab kar raha ho aur aisa hargiz bhi nahin ho sakta ke koi jahannami jahannam mein chala jaaey jabke koi jannati us se apne zulm ka badla talab kar raha ho." Farmaatey hain: Main ne poochha: [aur ek riwayat mein hai: logon ne kaha: Aye Allah ke Rasool!] (Us din badla) kaise (milega) jabke log barhana be saro saman hoonge? Farmaya: nekiyon aur gunaho se! [Al-Adabul-Mufrad]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه، قَالَ:

[قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ أَخَافُ أَنْ أَنْسَاهَا،

أَفْتَأْذُنُ لِي أَنْ أَكْتُبَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»،^(۱)

كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُرِيدُ حِفْظَهُ،

فَنَهَيْتَنِي فَرِيضٌ وَقَالُوا: أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ

وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا؟،

فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ،

[فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضًا تَقُولُ: تَكْتُبُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

وَإِنَّمَا هُوَ بَشَرٌ يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ،]^(۲)

[يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكْتُبُ مَا أَسْمَعُ مِنْكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»،

قُلْتُ: فِي الرِّضَا وَالسُّخْطِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»،

فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَقُولَ فِي ذَلِكَ إِلَّا حَقًّا»]^(۳)

فَأَوْمَأَ بِأَصْبَعِهِ إِلَى فِيهِ، فَقَالَ: «أَكْتُبْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ».

(حم د) عن ابن عمرو. والسياق لأبي داود [صحيح الجامع ۱۱۹۶، الصحيحة ۱۵۳۲] (صحيح)

عبداللہ بن عمرو رضي الله عنه فرماتے ہیں:

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ، میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں انہیں بھول نہ جاؤں۔ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں انہیں لکھا کروں؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ پس میرا معمول یہ ہو گیا کہ میں اللہ کے رسول ﷺ سے جو کچھ بھی سنتا لکھ لیتا۔ میری چاہت یہی تھی کہ آپ کی ہر بات محفوظ کر لوں۔ لیکن پھر قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے اس سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا: کیا تم اللہ کے رسول ﷺ کی ہر بات لکھتے ہو، جبکہ آپ ایک انسان ہیں؟ آپ کبھی خوشی میں تو کبھی غصہ میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میں لکھنے سے رک گیا۔ لیکن پھر میں نے اس بات کا تذکرہ خود اللہ کے رسول ﷺ سے کیا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول، قریش کہتے ہیں: تم اللہ کے رسول ﷺ کی ساری ہی باتیں لکھ لیتے ہو جبکہ آپ ایک انسان ہیں، اور لوگوں کی طرح کبھی آپ بھی غصہ میں ہوتے ہیں! تو اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کی ہر بات لکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں، اس لیے کہ میرے لیے ایسی حالت میں بھی اس بات کی گنجائش نہیں کہ میں حق کے سوا کچھ اور کہوں۔ پس آپ نے اپنے منہ کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہا: لکھ، اس لیے کہ اس ذات کی قسم، اس (منہ) سے حق سوا کچھ نہیں نکلتا! [مسند احمد، ابوداؤد]

^۱ (ك ۲۱۸۶) [إرواء الغلیل (۵/ ۱۴۷) تحت رقم ۱۳۰۵] (حسن لغیرہ)

^۲ [ك ۳۵۷]

^۳ [حم ۶۹۳۰] (صحيح لغیرہ)

7. Hifazat-e-Hadees ki justajoo

Abdullah ibne Amr ؓ farmaatey hain:

Main ne kaha: Aye Allah ke ﷺ, main aap se bahot si baatein sunta hoon lekin mujhe dar hai ke kahin main inhen bhool na jaon. Kya aap mujhe ijazat dete hain ke main inhen likha karoon? Aap ne farmaya: haan. Pas mera ma'mool ye ho gaya ke main Allah ke Rasool ﷺ se jo kuchh bhi sunta likh leta. Meri चाहत yahi thi ke aap ki har baat mehfooz kar loon. Lekin phir Quraish ke kuchh logon ne mujhe is se mana' kar diya. Unhon ne kaha: kya tum Allah ke Rasool ﷺ ki har baat likhte ho, jabke aap ek insaan hain? Aap kabhi khushi mein to kabhi gusse mein baat kar rahe hoty hain. Yeh sunna tha ke main likhne se ruk gaya. Lekin phir main is baat ka tazkira khud Allah ke Rasool ﷺ se bhi kiya. Main ne kaha: Aye Allah ke Rasool, Quraish kehte hain: tum Allah ke Rasool ﷺ ki saari hi baatein likh lete ho jabki aap ek insaan hain, aur logon ki tarah kabhi aap bhi gusse mein hoty hain! To Aye Allah ke Rasool ﷺ, kya main aap ki har baat likh sakta hoon? Aap ne farmaya: haan, is liye ke mere liye aisi halat mein bhi is baat ki gunjaish nahin ke main haq ke siwa kuchh aur kahoon. Pas aap ne apne munh ki taraf ungli se ishara kar ke kaha: Likh, is liye ke us zaat ki qasam, is (munh) se haq ke siwa kuchh nahin nikalta!

[Musnad Ahmad, Abu Dawood]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:
تَذَاكُرُوا الْحَدِيثَ فَإِنَّ حَيَاتَهُ الْمَذَاكِرَةُ.
[شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ۱۹۱]

عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه فرماتے ہیں:
حدیث کا مذاکرہ کیا کرو، اس لیے کہ حدیث کی زندگی اس کا مذاکرہ ہے۔ [شرف اصحاب الحدیث]

8. Ahadees ka muzakarah

Abdullah ibne Mas'ood رضي الله عنه farmaatey hain:

Hadees ka muzakirah kiya karo, is liye ke hadees ki zindagi uska muzakirah hai.

[Sharf As-habil-Hadith lil-Khatib al-Baghdadi]

عَنْ عَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ:
تَزَاوَرُوا وَتَذَاكُرُوا الْحَدِيثَ
فَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا يَدْرُسْنَ.
[شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ۱۸۹]

حضرت علی رضي الله عنه فرماتے ہیں:
آپس میں ایک دوسرے سے ملنے جاؤ، اور حدیثوں کا مذاکرہ کرو۔ اس لیے کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو حدیثیں دھندلی ہو کر مٹ جائیں گی۔
[شرف اصحاب الحدیث]

Hazrat Ali رضي الله عنه farmaatey hain:

Aapas mein ek dusre se milne jao, aur hadeeson ka muzakirah karo. Is liye ke agar tum ne aisa nahin kiya to hadeesen dhundli ho kar mit jayen gi.

[Sharf As-habil-Hadith lil-Khatib al-Baghdadi]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ، إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى رضي الله عنه كَأَنَّهُ مَدْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَأْذَنْ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ» فَقَالَ: وَاللَّهِ، لَتَقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، [وَالَا أَوْجَعْتِكَ.]^(۱) أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ [فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَتَاكُمْ أَحْوَكُ الْمُسْلِمِ قَدْ أَفْرَع، تَضْحَكُونَ؟ انْطَلِقْ، فَأَنَا شَرِيكَكَ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ،]^(۲) فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ، لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَلِكَ. [فَقَالَ عُمَرُ: «خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ»]^(۳) [يَعْنِي: الْخُرُوجَ إِلَى تِجَارَةٍ].^(۴)

خ: الإستئذان ۶۲۴۵ - م: الآداب ۳۴ - (۲۱۵۳) والسیاق للبخاری
وَبِي رِوَايَةٍ:

فَقَالَ عُمَرُ: لِأَبِي مُوسَى «إِنِّي لَمْ أَهْمَكَ وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَدِيدٌ» [«حَشِيئَةُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»]^(۵) [د ۵۱۸۳] (صحيح الإسناد) [الصحيححة تحت ۳۴۷۴]

ابوسعید خدری رضي الله عنه فرماتے ہیں:

میں انصار کی ایک مجلس میں تھا کہ وہاں ابو موسیٰ اشعری رضي الله عنه آ پہنچے۔ دکھائی دے رہا تھا کہ وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے: میں نے حضرت عمر سے ان کے گھر میں داخل ہونے کیلئے تین مرتبہ اجازت چاہی اور جب اجازت نہیں ملی تو واپس لوٹ گیا۔ انہوں نے پوچھا: تمہیں (اندر آنے سے) کس چیز نے روکا؟ میں نے کہا: میں نے تین مرتبہ اجازت مانگی لیکن اجازت نہیں ملی تو میں واپس لوٹ گیا۔ کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص تین مرتبہ اجازت طلب کرے اور پھر بھی اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ

^۱ [م: الآداب ۳۳ - (۲۱۵۳)]

^۲ [م: الآداب ۳۵ - (۲۱۵۳)]

^۳ [خ: الاعتصام بالکتاب والسنة ۷۳۵۳ - م: الآداب ۳۶ - (۲۱۵۳)] عن عبید بن عمیر

^۴ [خ: البيوع ۲۰۶۲ - م: الآداب ۳۶ - (۲۱۵۳)] واللفظ للبخاری

^۵ [د ۵۱۸۴] (صحيح الإسناد)

جائے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر نے کہا: "اللہ کی قسم، تمہیں اس کا گواہ پیش کرنا پڑے گا ورنہ میں تمہاری خبر لوں گا۔" تو آپ میں سے کوئی ہے جس نے یہ بات اللہ کے رسول ﷺ سے سنی ہو؟

لوگوں نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو ہنسنے لگے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے ان لوگوں سے کہا: تمہارے پاس ایک مسلمان بھائی گھبرایا ہوا آتا ہے اور تم اس پر ہنستے ہو؟ (پھر ابو موسیٰ سے کہا:) چلو، میں بھی آپ کے ساتھ آپ کی سزا میں شریک ہو جاتا ہوں۔ مجلس میں موجود ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ سے کہا: آپ کے ساتھ تو ایسا شخص ہی جانا چاہیے جو لوگوں میں سب سے کم عمر ہو۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں لوگوں میں سب سے کم عمر تھا، پس میں ان کے ساتھ جانے کیلئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ واقعی اللہ کے نبی ﷺ نے یہ بات کہی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ (افسوس کرتے ہوئے) کہنے لگے: اللہ کے نبی ﷺ کی یہ بات مجھ سے مخفی رہ گئی، مجھے بازاروں میں خرید و فروخت نے مشغول رکھا۔ [بخاری و مسلم]

ایک روایت میں ہے کہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا: میں تم پر (جھوٹ کی) تہمت نہیں لگاتا لیکن بات یہ ہے کہ نبی ﷺ سے حدیث بیان کرنے کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں لوگ اللہ کے رسول ﷺ پر باتیں نہ گھڑنے لگیں۔ [ابوداؤد]

9. Qabool-e-Hadees mein Ehtiyaat

Abu Sa'eed Khudri ؓ farmaatey hain:

Main Ansar ki ek majlis mein tha ke wahan Abu Moosa Ash'ari ؓ aa pahunche. Dikhai de raha tha ke woh bahut ghabraye huwe hain. Kehne lagey: Main ne hazrat Umar se unke ghar mein dakhil honay ke liye teen martaba ijazat chaahi aur jab ijazat nahin mili to wapas laut gaya. Unhon ne poochha: Tumhen (andar aane se) kis cheez ne roka? Main ne kaha: Main ne teen martaba ijazat mangi lekin ijazat nahin mili to main wapas laut gaya, kyunke Allah ke Rasool ﷺ ka farmaan hai ke agar tum mein se koi shakhs teen martaba ijazat talab karey aur phir bhi ijazat na mile to wapas laut jaaey. Yeh sunna tha ke hazrat Umar ؓ ne kaha: "Allah ki qasam, tumhen is ka gawah pesh karna padega warna main tumhari khabar lunga." To aap mein se koi hai jis ne yeh baat Allah ke Rasool ﷺ se suni ho?

Logon ne jab yeh sara waqi'ah suna to hansne lagey. Hazrat Abu Sa'eed Khudri ؓ farmaatey hain: Main ne un logon se kaha: Tumhare pass ek musalman bhai ghabraya huwa aata hai aur tum us par hanste ho? (Phir Abu Moosa ؓ se kaha:) chalo, main bhi aap ke sath aap ki saza mein shareek ho jaata hoon. Majlis mein maujood Ubai ibne Kaa'b ؓ ne hazrat Abu Moosa ؓ se kaha: Aap ke sath to aisa shakhs hi jana chahiye jo logon mein sab se kam umr ho. Abu Sa'eed Khudri ؓ farmaatey hain: Main logon mein sab se kam umr tha, pas main un ke sath jaaney ke liye uth khada huwa. Main ne hazrat Umar ؓ ko bataya ke waqai Allah ke Nabi ﷺ ne yeh baat kahi hai. Is par hazrat Umar ؓ (afsos karte huwe) kehne lagey: Allah ke Nabi ﷺ ki yeh baat mujh se makhfi reh gayi, mujhe bazaaron mein khareed o farokht ne mashgool rakha.

Ek riwayat mein hai ke: Hazrat Umar ؓ ne Abu Moosa Ash'ari ؓ se kaha: Main tum par (jhoot ki) tohmat nahin lagata lekin baat yeh hai ke Nabi ﷺ se hadees bayan karne ka muamla bada sakht hai. Mujhe is baat ka andesha hai ke kahin log Allah ke Rasool ﷺ par baatein na ghadne lagen. [Abu Dawood]

عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:

جَاءَ بُشَيْرُ الْعَدَوِيِّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ،
وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَأْذُنُ لِحَدِيثِهِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ،
فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي،
أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا تَسْمَعُ،
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ابْتَدَرْتَهُ أَبْصَارُنَا، وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِأَذَانِنَا،
فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ، وَالذَّلُولَ، لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ.
[م: المقدمة: ٤ - بَابُ فِي الضُّعْفَاءِ وَالْكَذَّابِينَ وَمَنْ يُرْعَبُ عَنْ حَدِيثِهِمْ]

مجاہدؓ فرماتے ہیں:

بُشَيْرِ عَدَوِيِّؓ ابْنِ عَبَّاسٍؓ کے پاس آئے اور ان کے سامنے حدیثیں بیان کرنے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے: اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا!
اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا! لیکن ابن عباسؓ نہ ان کی باتیں سن رہے تھے اور نہ ہی ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت بُشَيْرِیہ دیکھ
کر کہنے لگے: اے ابن عباس، کیا بات ہے کہ آپ میری بات نہیں سنتے؟ میں آپ سے اللہ کے رسول ﷺ کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں لیکن
آپ انہیں سننے سے گریز کر رہے ہیں؟ اس پر ابن عباسؓ نے فرمایا: ایک دور وہ بھی تھا کہ جب کوئی شخص کہتا: اللہ کے رسول ﷺ نے
فرمایا۔ تو فوراً ہماری نگاہیں اس کی طرف اٹھ جاتیں اور ہم پوری توجہ سے اس کی بات سنتے۔ لیکن جب سے لوگوں نے مشکل اور آسان ہر
قسم کے راستے پر سوار ہونا شروع کر دیا تو اب ہم بھی وہی حدیث قبول کرتے ہیں جس کا معتبر ہونا ہمیں معلوم ہو۔ [مسلم]

Mujahid ؓ farmaatey hain:

Bushair Adawi ؓ Ibne Abbas ؓ ke pas aaye aur un ke samne hadeesen bayan karne
lagey. Woh keh rahe thhey: Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya, Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya.
Lekin Ibne Abbas ؓ na un ki baatein sun rahe thhey aur na hi un ki taraf dekh rahe thhey.
Hazrat Bushair yeh dekh kar kehne lagey: Aye Ibne Abbas, kya baat hai ke aap meri baat
nahin sunte? Main aap se Allah ke Rasool ﷺ ki hadeesen bayan kar raha hoon lekin aap
unhe sunne se gurez kar rahey hain? Is par Ibne Abbas ؓ ne farmaya: ek daur woh bhi
tha ke jab koi shakhs kehta: Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya. To fauran hamari nigahen us
ki taraf uth jatien aur hum poori tawajjah se us ki baat sunte. Lekin jab se log mushkil aur
aasaan har qism ke raste par sawar hona shuru kar diya to ab hum bhi wahi hadees
qabool karte hain jis ka mo'tabar hona hamein maaloom ho. [Muslim]

عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّكُمْ تَقُولُونَ:
 إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، [وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ،^(١)
 وَتَقُولُونَ مَا بَالَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
 لَا يُحَدِّثُونَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ،
 [وَلَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا،
 ثُمَّ يَتْلُو {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ} إِلَى قَوْلِهِ {الرَّحِيمِ}]^(٢)^(٣)
 وَإِنْ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ صَفْقُ الْأَسْوَاقِ،
 وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى مِلءِ بَطْنِي، فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا،
 وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ،
 وَكُنْتُ أَمْرًا مَسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ، أَعْيَى حِينَ يَنْسُونَ،
 وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ:
 «إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ، ثُمَّ يَجْمَعُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، إِلَّا وَعَى مَا أَقُولُ»،
 [قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ!
 قَالَ: «ابْسُطْ رِدَاءَكَ»،^(٤) فَبَسَطْتُ فَمَرَّةً عَلَيَّ،
 حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَتَهُ [قَالَ: فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ضُمَّهُ»
 فَضَمَّمْتُهُ،^(٤) [جَمَعْتَهَا إِلَى صَدْرِي،
 [فَوَالَّذِي بَعْتُهُ بِالْحَقِّ]^(٥) فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ.
 [وفي رواية: فَمَا نَسِيتُ حَدِيثًا بَعْدُ].^(٦) [خ: البيوع ٢٠٤٧ - م: فضائل الصحابة ١٥٩ - (٢٤٩٢)]

^(١) [خ: المزارعة ٢٣٥٠ - م: فضائل الصحابة ١٥٩ - (٢٤٩٢)]

^(٢) [البقرة: ١٥٩]

^(٣) [خ: العلم ١١٨ - م: فضائل الصحابة (٢٤٩٣)]

^(٤) [خ: العلم ١١٩]

^(٥) [خ: الإعتصام بالكتاب والسنة ٧٣٥٤]

^(٦) [خ: المناقب ٣٦٤٨]

سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہما اللہ سے روایت ہے کہ:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم لوگ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ اللہ کے رسول ﷺ سے کچھ زیادہ ہی حدیثیں بیان کرتا ہے۔ اور اللہ ہر ایک سے حساب لینے والا ہے۔ اور تم کہتے ہو مہاجرین اور انصار ابو ہریرہ کی طرح اللہ کے رسول ﷺ سے زیادہ حدیثیں کیوں بیان نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی کتاب میں دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں ایک بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر انہوں نے یہ آیتیں پڑھیں۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ﴾

جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کھلی دلیلوں اور ہدایت کو چھپا جاتے ہیں جبکہ ہم نے انہیں کتاب میں لوگوں کے لیے صاف بیان کر دیا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور سبھی لعنت کرنے والے لعنت برساتے ہیں۔ ہاں، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور (چھپائے ہوئے کو) بیان کر دیں تو ایسے لوگوں کی توبہ میں ضرور قبول کرتا ہوں، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ [البقرہ ۱۵۹-۱۶۰]

در اصل بات یہ ہے کہ میرے مہاجر بھائی بازار میں تجارت میں مشغول رہتے تھے اور میں پیٹ بھر کھانے پر قناعت کر کے اللہ کے رسول ﷺ سے چمٹا رہتا تھا۔ اسی لیے جب وہ غیر حاضر رہتے میں حاضر رہتا اور جب وہ بھول جاتے میں یاد رکھ لیتا۔ اور میرے انصار بھائی اپنی کھیتی باڑی اور چوپایوں کی محنت میں مشغول رہتے اور میں اہل صفہ کے مساکین میں سے ایک مسکین تھا۔ پس جسے وہ بھول جاتے میں یاد رکھ لیتا۔

پھر ایک دن اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: جو شخص بھی میری بات مکمل ہونے تک اپنا کپڑا زمین پر بچھائے رکھے، پھر اسے اپنی طرف سمیٹ لے تو وہ میری بات اچھی طرح یاد رکھنے والا ہو جائے گا۔ میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے کہا: اے اللہ کے رسول، میں خود آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن وہ مجھے یاد نہیں رہتیں۔ آپ نے فرمایا: اپنی چادر بچھا دو۔ میں نے اپنی چادر بچھا دی۔ جب آپ نے اپنی بات مکمل کر لی تو آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کیا اور کہا: اسے (سینے سے) چمٹالو، تو میں نے اسے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ پس اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس کے بعد سے میں اللہ کے رسول ﷺ کی کوئی بات نہیں بھولا۔

[بخاری و مسلم]

10. Hadees bayan karne mein Ehtiyaat

Sa'eed ibne Musayyib aur Abu Salamah ibne Abdur Rahman رضی اللہ عنہما se riwayat hai ke:

Abu Hurairah رضی اللہ عنہ ne farmaya: tum log kehte ho ke Abu Hurairah Allah ke Rasool ﷺ se kuchh ziyada hi hadeesen bayan karta hai. Aur Allah har ek se hisaab lena wala hai. Aur tum kehte ho Muhajireen aur Ansar Abu Hurairah ki tarah Allah ke Rasool ﷺ se ziyada hadeesen kyun bayan nahin karte. Baat yeh hai ke agar Allah ki kitaab mein do aayaten na hotien to main ek bhi hadees bayan na karta. Phir unhon ne yeh ayaten padheen.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ﴾

"Jo log Allah ki naazil kardah khuli daleelon aur hidayat ko chhupa jaate hain jabke hum ne unhen kitaab mein logon ke liye saaf bayan kar diya hai, aise logon par Allah Ta'ala laanat karta hai aur sabhi laanat karne wale laanat barsate hain. Haan, magar woh log jo taubah karlen aur islaah karlen aur (chhupaye huwe ko) bayan kar dein to aise logon ki taubah main zaroor qabool karta hoon, aur main bada taubah qabool karne wala, rahem karne wala hoon." [Al-Baqarah 159-160]

Dar asal baat yeh hai ke mere muhajir bhai baazaar mein tijaarat mein mashgool rehte thhey aur main pet bhar khane par qana'at karke Allah ke Rasool ﷺ se chimta rehta tha. Isi liye jab woh gair haazir rehte main haazir rehta aur jab woh bhool jaate main

yaad rakh leta. Aur mere Ansar bhai apni kheti baadi aur chaupayon ki mehnat mein mashgool rehte aur main ahle-suffah ke masaakeen mein se ek miskeen tha. Pas jise wo bhool jaate main yaad rakh leta.

Phir ek din Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya: jo shakhs bhi meri baat mukammal honay tak apna kapda zameen par bichhayee rakhe, phir usey apni taraf samet le to woh meri baat achchi tarah yaad rakhne wala ho jayega. Main ne Allah ke Rasool ﷺ se kaha: Aye Allah ke Rasool, main khud aap se bahot si hadeesen sunta hoon lekin woh mujhe yaad nahin rehtien. Aap ne farmaya: Apni chaadar bichha do. Main ne apni chadar bichha di. Jab aap ne apni baat mukammal kar li to aap ne apni donon hatheyliyon ko jama kiya aur kaha: Ise (seene se) chimta lo, to main ne usey samet kar apne seene se laga liya. Pas us zaat ki qasam jisne Aap ﷺ ko haq ke sath bheja hai, uske baad se main Allah ke Rasool ﷺ ki koi baat nahin bhoola. *[Bukhari wa Muslim]*

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ:

اخْتَلَفْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ   سَنَةً

لَا أَسْمَعُهُ يَقُولُ فِيهَا: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  »

إِلَّا أَنَّهُ جَرَى ذَاتَ يَوْمٍ حَدِيثٌ، فَقَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  »، فَعَلَاهُ كَرْبٌ

وَجَعَلَ الْعَرَقُ يَنْحَدِرُ عَنْ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ:

«إِنَّمَا فَوْقَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا دُونَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ».

(حم هك مي والطيالسي واللفظ له) [مسند أبي داود الطيالسي ٣٢٤] (صحيح)

عمر بن ميمون کہتے ہیں:

میں ایک سال تک عبد اللہ بن مسعود   کے پاس آتا جاتا رہا۔ میں نے انہیں کبھی یہ کہتے نہیں سنا کہ «اللہ کے رسول   نے فرمایا»۔ لیکن

ایک دن باتوں باتوں میں ان کی زبان سے نکل گیا کہ «اللہ کے رسول   نے فرمایا» تو ایک دم گھبرا گئے، پیشانی پسینے سے بھیک گئی۔ پھر

کہا: اس سے کچھ زیادہ، یا کچھ کم یا اس کے قریب کہا تھا۔ [مسند احمد، ابن ماجہ، حاکم، دارمی، ابوداؤد طیالسی]

Amr ibne Maimoon kehte hain:

Main ek saal tak Abdullah ibne Mas'ood   ke pass aata jaata raha. Main ne unhen kabhi yeh kehte nahin suna ke "Allah ke Rasool   ne farmaya". Lekin ek din baaton baaton mein unki zabaan se nikal gaya ke "Allah ke Rasool   ne farmaya", to ek dam ghabra gaye, peshani paseene se bheeg gayi. Phir kaha: Is se kuchh ziyada, ya kuchh kam ya is ke qareeb kaha tha.

[Musnad Ahmad, Ibne Majah, Hakim, Darimi, Abu Dawood Tayalisi]

۱۱. نشر حدیث کا اہتمام

عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ:

«تَوَاعَدَ النَّاسُ لَيْلَةَ مِنَ اللَّيَالِي قُبَّةً مِنْ قِبَابِ مُعَاوِيَةَ
وَاجْتَمَعُوا فِيهَا فَقَامَ فِيهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحُوا».
[الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ۱۱۷۲]

مکحول فرماتے ہیں:

لوگوں نے ایک رات حضرت معاویہ کے گھر میں جمع ہونا طے کیا۔ پس وہ جمع ہوئے تو ابو ہریرہ کے کھڑے ہوئے اور ان کے درمیان اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کرتے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ [الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع]

11. Nashr-e-Hadees ka Ehtemaam

Mak'hool farmaatey hain:

Logon ne ek raat hazrat Mu'awiyah ke ghar mein jama hona tay kiya. Pas woh jama huwe to Abu Hurairah khadey huwe aur unke darmiyan Allah ke Rasool ki hadeesen bayan karte rahe yahan tak ke Fajr ka waqt ho gaya.

[Al-Jami' li Akhlaq-ir-Rawi wa Aadaab-is-Saami']

عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ:

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى خَرَجَ الْإِمَامُ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ،
فَقَالَ لِي: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ
فَقَالَ لَهُ: «اجْلِسْ! فَقَدْ آذَيْتَ وَأَنْيَيْتَ». [صحيح ابن خزيمة ۱۸۱۱] (إسناده صحيح)

ابو زہریہ کہتے ہیں:

میں جمعہ کے دن عبد اللہ بن بسر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہمیں حدیثیں سناتے رہے یہاں تک کہ امام صاحب آگئے۔ اتنے میں ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے آیا تو حضرت عبد اللہ بن بسر نے مجھ سے کہا: ایک شخص (اسی طرح) لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا جبکہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے اس سے کہا: بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو اذیت پہنچائی اور دیر سے بھی آئے۔ [ابن خزیمہ]

Abu Zahiriyyah kehte hain:

Main juma ke din Abdullah ibne Busr ke sath baitha huwa tha. Woh hamein hadeesen sunaate rahe yahan tak ke imam sahab aa gaye. Itne mein ek shakhs logon ki gardanen phalangta huwe aage aaya to hazrat Abdullah ibne Busr ne mujh se kaha: ek shakhs (isi tarah) logon ki gardanen phalangta huwa aage aaya jabke Allah ke Rasool khutba de rahe thhey. Aap ne us se kaha: baith jao, tum ne logon ko aziyyat pahunchai aur der se bhi aaye. [Ibne Khuzaimah]

عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ:

سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ
فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ فَدَعَا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ:
وَاللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ،
إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

«لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّيَ صَلَاةً
إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا»

[خ: الوضوء ۱۶۰ - م: الطهارة ۵ - (۲۲۷)] واللفظ لمسلم

وفي رواية: قَالَ عُرْوَةُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ}.

[البقرة: ۱۵۹]. [خ: الوضوء ۱۶۰ - م: الطهارة ۶ - (۲۲۷)]

حضرت عثمان ؓ کے غلام حُمران فرماتے ہیں:

میں نے حضرت عثمان ؓ کو سنا جبکہ وہ مسجد کے بaramدے میں تھے، عصر کے وقت مؤذن آیا تو انہوں نے وضو کا پانی منگوا یا اور فرمایا: اللہ کی قسم، میں تمہیں ایک حدیث سنا تا ہوں، اگر اللہ کی کتاب میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں کبھی تمہارے سامنے حدیث بیان نہ کرتا۔ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو فرماتے سنا: جو بھی مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلی نماز سے اس نماز تک ہونے والے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ عروہ ؓ فرماتے ہیں: وہ آیت یہ ہے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ [البقرة ۱۵۹]

[بخاری و مسلم]

12. Hadees chhupaaney se darna

hazrat Usman ؓ ke gulam Humran farmaatey hain:

Main ne hazrat Usmaan ؓ ko suna jabke woh masjid ke baramde mein thhey, Asr ke waqt muazzin aaya to unhon ne wuzu ka pani mangwaya aur farmaya: Allah ki qasam, main tumhen ek hadees sunata hoon, agar Allah ki kitaab mein ek aayat na hoti to main kabhi tumhare samne hadees bayan na karta. Main ne Allah ke Rasool ﷺ ko farmaatey suna: jo bhi musalman achchi tarah wuzu karta hai aur namaz ada karta hai to Allah Ta'ala pichli namaz se is namaz tak hone wale uske saare gunaaah muaaf kar deta hai.

Ek riwayat mein hai ke Urwah ؓ farmaatey hain: woh aayat yeh hai.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ [البقرة ۱۵۹]

[Bukhari wa Muslim]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ:

بَيْنَا أَنَا وَرَدِيفُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا آخِرَةُ الرَّحْلِ،

فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ» قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ!

ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ»، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ!

ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ»، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ!

قَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،

قَالَ: «حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا»

ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ»، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ!

فَقَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،

قَالَ: «حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ» [وَبِي رِوَايَةٍ: أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ، وَأَنْ يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ].^(١)

[فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: «لَا تُبَشِّرُهُمْ، فَبِتَكَلُّوْا»]^(٢) [دَعُّهُمْ يَعْمَلُوا،]^(٣)

[قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: رضي الله عنه: وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْمَمًا].^(٤)

[خ: اللباس ٥٩٦٧ - م: الإيمان ٤٨ - (٣٠)] والسياق للبخاري

معاذ بن جبل رضي الله عنه فرماتے ہیں:

میں نبی ﷺ کے پیچھے سواری پر تھا اور میرے اور آپ ﷺ کے درمیان کجاوے کی پچھلی لکڑی کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے فرمایا: اے

معاذ! میں نے کہا: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ۔ (لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا بلکہ) آپ اسی طرح چلتے رہے۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے

دوبارہ آواز دی۔ اے معاذ! میں نے عرض کیا: جی اے اللہ کے رسول، حکم فرمائیں۔ (لیکن اس مرتبہ بھی آپ نے کچھ نہیں کہا بلکہ) آپ

چلتے رہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر آواز دی۔ کہا: اے معاذ! میں نے کہا: جی اللہ کے رسول، حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: جانتے ہو اللہ کا

بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا: اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور

اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ پھر آپ آگے بڑھے۔ لیکن کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پھر آواز دی۔ کہا: اے معاذ بن جبل! میں

نے کہا: اے اللہ کے رسول، حاضر ہوں، حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ بندے جب ایسا کریں تو ان کا اللہ پر کیا حق ہے؟

میں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا: بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ (ایک روایت میں ہے

کہ: بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ ان کی مغفرت کر دے اور انہیں جنت میں داخل کر دے۔)

فرماتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول، کیا میں یہ خوشخبری لوگوں کو نہ سناؤں؟ آپ نے فرمایا: (نہیں) انہیں یہ خوشخبری نہ سناؤ

ورنہ وہ اسی پر تکیہ کر لیں گے۔ انہیں چھوڑے رکھو کہ عمل کرتے رہیں۔

انس بن مالک رضي الله عنه فرماتے ہیں: معاذ بن جبل نے (علم چھپانے کے) گناہ کے خوف سے موت کے وقت یہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان

کر دی۔ [بخاری و مسلم]

^١ (١) [حم ٢٢٠٤٠] (حدیث صحیح)

^٢ (٢) [خ: الجهاد والسير ٢٨٥٦ - م: الإيمان ٤٩ - (٣٠)] واللفظ للبخاري

^٣ (٣) [حم ٢١٩٩٤] (إسناده صحیح) وفي (عب طبع جامع) «دَعُّهُمْ يَعْمَلُونَ»

^٤ (٤) [خ: كتاب العلم: ١٢٨ - م: الإيمان ٥٣ - (٣٢)] عن أنس

Mu'az ibne Jabal ﷺ farmaatey hain:

Main Nabi ﷺ ke peechhey sawaari per tha aur mere aur aap ﷺ ke darmiyan kajaawe ki pichli lakdi ke siwa aur koi cheez na thi. Aap ﷺ ne farmaya: Aye Mu'az! Main ne kaha:

(لَتَبِيكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ). (Lekin aap ne kuchh nahin kaha balke) aap isi tarah chalte rahe.

Phir kuchh der baad aap ne dobara aawaz di: Aye Mu'az! Main ne arz kiya: Ji Allah ke Rasool, hukm farmaen. (Lekin is martaba bhi aap ne kuchh nahin kaha balke) aap chalte rahe. Teesri martaba aap ne phir aawaz di. Kaha: Aye Mu'az! Main ne kaha: Haazir hoon Allah ke Rasool, hukm farmayen. Aap ne farmaya: Jaante ho Allah ka bandon par kya haq hai? Main ne kaha: Allah aur uske Rasool hi behtar jante hain. Farmaya: Allah ka bandon par haq yeh hai ke woh usi ki ibadat karen aur uske saath kisi cheez ko shareek na karen. Phir aap aage badhe. Lekin kuchh hi der guzri thi ke phir aawaz di. Kaha: Aye Mu'az ibne Jabal! Main ne kaha: Aye Allah ke Rasool, haazir hoon hukm farmayen. Aap ne farmaya: kya tum jante ho ke bande jab aisa karen to unka Allah par kya haq hai? Main ne kaha: Allah aur uske Rasool hi behtar jante hain. Farmaya: Bandon ka haq Allah par yeh hai ke woh unhen azaab na de. (Ek riwayat mein hai ke: Bandon ka haq Allah par yeh hai ke woh unki maghfirat karde aur unhen jannat mein daakhil karde.)

Farmaatey hain: Main ne kaha: Aye Allah ke Rasool, kya main yeh khushkhabari logon ko na suna doon? Aap ne farmaya: (Nahin,) unhen yeh khushkhabari na sunao warna woh isi par takiya kar lenge. Unhen chhode rakho ke amal karte rahen.

Anas ibne Malik ﷺ farmaatey hain: Mu'az ibne Jabal ﷺ ne (ilm chhupane ke) gunah ke khauf se maut ke waqt yeh hadees logon ke saamne bayan kar di. [Bukhari wa Muslim]

عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ،
 أَنَّهُ قَالَ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ:
 كُنْتُ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ:
 «لَوْ لَا أَنْتُمْ تُذْنِبُونَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا يُذْنِبُونَ يَغْفِرُ لَهُمْ» . [م: التوبة ٩ - (٢٧٤٨)]

وفي رواية قال ﷺ:

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ»
 [م: التوبة ١١ - (٢٧٤٩)] عن أبي هريرة

ابو صرمہ ﷺ فرماتے ہیں:

جب ابو ایوب انصاری ﷺ کی وفات کا وقت آیا تو فرمانے لگے: میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے ایک حدیث سنی تھی جو اب تک تم لوگوں سے چھپائے رکھی تھی۔ میں نے آپ ﷺ کو فرماتے سنا تھا: اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور اللہ ان کی مغفرت فرماتا۔ [مسلم]

ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کے فرمایا:

اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ہٹا کر ایسے لوگ لے آتا جو گناہ کرتے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور اللہ ان کی مغفرت کر دیتا۔ [مسلم]

Abu Sirmah ﷺ farmaatey hain:

Jab Abu Ayyub Ansari ﷺ ki wafaat ka waqt aaya to farmane lagey: Main ne Allah ke Rasool ﷺ se ek hadees suni thi jo ab tak tum logon se chupaye rakhi thi. Main ne Aap ﷺ ko farmaatey suna tha: Agar tum log gunah na karte to Allah Ta'ala ek aisi makhloq paida karta jo gunah karti aur Allah un ki maghfirat farmata. [Muslim]

Ek riwayat mein hai ke Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya: Us zaat ki qasam jis ke haath mein meri jaan hai, agar tum gunah na karte to Allah tumhein hata kar aise log le aata jo gunah karte, phir Allah se maghfirat talab karte aur Allah unki maghfirat kar deta.

[Muslim]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
 بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ
 إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ
 فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ
 فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ
 قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى الْفَاءِ نِعَالِكُمْ؟»
 قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا،
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ جِبْرِيْلَ ﷺ أَتَانِي
 فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَدْرًا» أَوْ قَالَ: «أَدَّى [فَأَلْقَيْتُهُمَا]»^(۱). [د: ۵۶۰] (صحيح)

ابوسعید خدری ؓ فرماتے ہیں:

ایک دن اللہ کے رسول ﷺ اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ نے اپنی جوتیاں اتار کر اپنی بائیں طرف رکھ دیں۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی (نماز ہی میں) اپنی جوتیاں اتار دیں۔ جب اللہ کے رسول ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا: تم لوگوں نے اپنی جوتیاں کیوں اتاریں؟ صحابہ نے کہا: ہم نے آپ کو جوتیاں اتارتے دیکھا تو ہم نے بھی اپنی جوتیاں اتار دیں۔ آپ نے فرمایا: بات دراصل یہ ہے کہ جبرئیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری جوتیوں میں نجاست لگی ہے، اس لیے میں نے انہیں اتار دیا۔

[ابوداؤد]

13. Sunnat ki Itteba' ka Shauq

Abu Sa'eed Khudri ؓ farmaatey hain:

Ek din Allah ke Rasool ﷺ apne sahaba ko namaz padha rahe thhey ke aap ne apni jootiyan utaar kar apni bayein taraf rakh dien. Jab logon ne yeh dekha to unhon ne bhi (namaz hi mein) apni jootiyan utaar dien. Jab Allah ke Rasool ﷺ namaz se farigh huwe to aap ne poochha: Tum logon ne apni jootiyan kyun utaarien? Sahaba ne kaha: Hum ne aap ko jootiyan utaarte dekha to hum ne bhi apni jootiyan utaar dien. Aap ne farmaya: Baat dar-asl yeh hai ke Jibreel ؑ mere paas aaye aur unhon ne mujhe khabar di ke meri jootiyan mein najasat lagi hai, is liye main ne unhen utaar diya. [Abu Dawood]

^۱ هذه الزيادة في رواية أحمد [۱۱۸۹۵] قال الارنؤوط: إسناده صحيح

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه
 قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ،
 فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ»
 فَتَبَدُّهُ وَقَالَ: «إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا»، فَتَبَدَّدَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.
 [خ: الاعتصام بالكتاب والسنة ٧٢٩٨ - م: اللباس والزينة ٥٣ - (٢٠٩١)]

عبداللہ بن عمر رضي الله عنه فرماتے ہیں:

اللہ کے نبی ﷺ نے اپنے لیے سونے کی انگوٹھی بنوائی تو صحابہ نے بھی اپنے لیے سونے کی انگوٹھیاں بنوالیں۔ لیکن پھر نبی ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنے لیے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی اور یہ کہہ کر اسے پھینک دیا اور فرمایا: آج کے بعد میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ یہ دیکھ کر صحابہ نے بھی اپنی انگوٹھیاں نکال کر پھینک دیں۔ [بخاری و مسلم]

Abdullah ibne Umar رضي الله عنه farmaatey hain:

Allah ke Nabi ﷺ ne apne liye sonay ki anguthi banwai to sahaba ne bhi apne liye sonay ki anguthiyan banwa lien. Lekin phir Nabi ﷺ ne farmaya: Main ne apne liye sone ki anguthi banwai thi aur yeh keh kar usey phenk diya aur farmaya: Aaj ke baad main isey kabhi nahin pehnoonga. Yeh dekh kar sahaba ne bhi apni apni anguthiyaan nikaal kar phenk dien. [Bukhari wa Muslim]

عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَرَبِيِّ، قَالَ:

سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ اسْتِئْذَانِ الْحَجَرِ،
 فَقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ»
 قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ، أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ،
 قَالَ: «اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ». [خ: الحج ١٦١١]

زبیر بن عربی رضي الله عنه فرماتے ہیں:

ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضي الله عنه سے حجر اسود کو چھونے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا: میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ نے اسے چھوا اور چوما۔ اس شخص نے کہا: اگر میں بھیڑ میں پھنس جاؤں، اور اگر لوگ مجھ پر غالب آجائیں تو؟ عبداللہ بن عمر رضي الله عنه نے فرمایا: تم اپنا یہ ”اگر“ یمن میں رکھو۔ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ حجر اسود کو چھوتے تھے اور چومتے تھے۔ [بخاری]

Zubair ibne Arabi رضي الله عنه farmaatey hain:

Ek shakhs ne hazrat Abdullah ibne Umar رضي الله عنه se Hajar-e-Aswad ko chhoone ke baarey mein poochha. Unhon ne farmaya: Main ne Allah ke Rasool ﷺ ko dekha hai ke aap ne usey chhua aur chooma. Us shakhs ne kaha: Agar main bheed mein phans jaaun, aur agar log mujh par gaalib aajaen to? Abdullah ibne Umar رضي الله عنه ne farmaya: Tum apna yeh “agar” Yemen mein rakho. Main ne Allah ke Rasool ﷺ ko dekha hai ke aap Hajr-e-Aswad ko chhoote thhey aur choomte thhey. [Bukhari]

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ:

شَهِدْتُ عَلِيًّا   وَأُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا

فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ، قَالَ: (بِسْمِ اللَّهِ)

فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا، قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ)

ثُمَّ قَالَ: (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا

وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ)

ثُمَّ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُ أَكْبَرُ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

ثُمَّ قَالَ: (سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ) ثُمَّ ضَحِكَ.

فَقِيلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟

قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ   فَعَلَّ كَمَا فَعَلْتُ، ثُمَّ ضَحِكَ.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟

قَالَ: «إِنَّ رَبَّكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: (رَبِّ)   (١) اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي)

[وَيَقُولُ: (٢) يَعْظَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي!« (حم د ت) [د بتحقيق الألباني ٢٦٠٢] (صحيح)

علی بن ربیعہ فرماتے ہیں:

میں اس وقت موجود تھا جب حضرت علی   کے پاس سواری کیلئے ایک جانور لایا گیا۔ جب انہوں نے رکاب میں پاؤں رکھا تو کہا: بسم اللہ!

پھر جب جانور کی پیٹھ پر ٹھیک سے سوار ہو گئے تو کہا: الحمد للہ! پھر کہا:

«سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ»

یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارے لیے تابع بنا دیا ورنہ ہمارے بس میں نہ تھا کہ اسے پابند کر سکیں، اور لوٹ کر ہمیں اپنے

رب ہی کے پاس جانا ہے۔ پھر تین مرتبہ الحمد للہ کہا۔ پھر تین مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ پھر یوں کہا:

«سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»

کہ (اے اللہ) تو پاک ہے، ظلم تو خود میں نے اپنے اوپر کیا ہے، پس تو میری مغفرت فرما دے۔ کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کی

مغفرت کرنے والا ہو۔

اتنا کہہ کر حضرت علی   ہنس دیے۔ کسی نے پوچھا: اے امیر المؤمنین آپ کس چیز پر ہنسے؟ فرمایا: میں نے اللہ کے نبی   کو

دیکھا، آپ نے بھی وہی کہا جو میں نے کہا اور پھر آپ بھی ہنس دیے۔ میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول، آپ کس وجہ سے ہنسے؟ فرمایا: جب

بندہ کہتا ہے: اے میرے رب، میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے تو تمہارا رب اس بندے پر تعجب کرتے ہوئے فرماتا ہے: میرا بندہ اس

بات کو جانتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کی مغفرت کرنے والا کوئی نہیں۔ [مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی]

١ (حم ت حب) [ت بتحقيق الألباني ٣٤٤٦] (صحيح)

٢ (حم) [٧٥٦] (حسن لغيره)

Ali ibne Rabee'ah farmaatey hain:

Main us waqt maujood tha jab hazrat Ali ؑ ke paas sawari ke liye ek janwar laya gaya. Jab unhon ne rikaab mein paon rakha to kaha: Bismillah! Phir jab janwar ki peeth par theek se sawaar ho gaye to kaha: Alhumdulillah! Phir kaha:

«سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ»

Ya'ni paak hai woh zaat jis ne is janwar ko hamare liye taabe' bana diya warna hamare bas main na tha ke usey paband kar saken, aur laut kar hamein apne Rabb hi ke paas jana hai. Phir teen martaba Alhumdulillah kaha. Phir teen martaba Allahu Akbar kaha. Phir yun kaha :

«سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»

(Aye Allah) tu paak hai, zulm to khud main ne apne upar kiya hai, pas tu meri magfirat farma de. Kyunke tere siwa koi nahin jo gunaaho ki magfirat karne wala ho.

Itna keh kar hazrat Ali ؑ hans diye. Kisi ne poochha: Aye ameer-ul-momineen, aap kis cheez par hanse? Farmaya: Main ne Allah ke Nabi ؐ ko dekha, aap ne bhi wahi kaha jo main ne kaha aur phir aap bhi hans diye. Main ne poochha: Aye Allah ke Rasool, aap kis wajah se hanse? Farmaya: Jab bandah kehta hai: Aye mere Rabb, mere gunaahon ki magfirat farma de to tumhara Rabb us bande par ta'ajjub karte huwe farmata hai: Mera bandah is baat ko jaanta hai ke mere siwa gunaahon ki magfirat karne wala koi nahin.

[Musnad Ahmad, Abu Dawood, thirmizi]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ،

فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، [وَلَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ]،^(۱)

ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّلَامَ

[و] ^(۲) قَالَ: «ارْجِعْ، فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»،

فَرَجَعَ الرَّجُلُ، فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ»، ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ، فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»،

حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،

فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَحْسِنُ غَيْرَ هَذَا [ف] ^(۳) عَلَّمَنِي [يَا رَسُولَ اللَّهِ]،^(۴)

قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ،

ثُمَّ ارْجِعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا،

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا،

[ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا]،^(۴) ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»،

[«فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَمَا انْتَقَصَتْ مِنْ هَذَا شَيْئًا، فَإِنَّمَا انْتَقَصْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ»].^(۵)

[خ: الاستئذان ۶۲۵۱ - م: الصلاة ۴۵ - (۳۹۷)] والسياق لمسلم

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

اللہ کے رسول ﷺ مسجد میں تشریف لائے۔ آپ کے بعد ایک اور شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے لگا۔ اس نے نماز میں نہ اطمینان سے رکوع کیا اور نہ ہی سجدہ۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر اللہ کے رسول ﷺ کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: واپس جاؤ اور اپنی نماز دہراؤ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا اور پہلے ہی کی طرح نماز پڑھی اور آکر دوبارہ آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا: وعلیک السلام۔ واپس جاؤ اور پھر سے نماز ادا کرو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تین مرتبہ اسی طرح ہوا۔ یہاں تک کہ اس شخص نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اے اللہ کے رسول، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ ہی مجھے سکھا دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم نماز کیلئے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر جتنا قرآن تمہارے پاس ہو اس میں سے جو بھی میسر ہو پڑھو، پھر رکوع کرو اور اطمینان سے رکوع میں رہو، پھر رکوع سے کھڑے ہو جاؤ اور اعتدال سے کھڑے رہو، پھر سجدہ میں جاؤ اور

^۱ (۱) [عوانة ۱۶۰۹]

^۲ (۲) [خ: الآذان ۷۵۷]

^۳ (۳) [خ: الآذان ۷۹۳]

^۴ (۴) [خ: الإستئذان ۶۲۵۱]

^۵ (۵) [د ۸۵۶] (صحیح)

اطمینان سے سجدہ میں رہو، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور اطمینان سے بیٹھو، پھر سجدہ میں جاؤ اور اطمینان سے سجدے میں رہو، پھر سجدے سے اٹھو اور اطمینان سے بیٹھے رہو، پھر پوری نماز میں اسی طرح کرو۔ جب تم نے ایسا کیا تو تمہاری نماز پوری ہو گئی۔ اور ان میں سے کسی چیز میں بھی تم نے کمی کی تو اس سے تمہاری نماز میں بھی نقص پیدا ہو جائے گا۔ [بخاری و مسلم]

14. Nabi ﷺ ke hukm ki ta'meel ka Ehtemaam

Abu Hurairah ؓ farmaatey hain:

Allah ke Rasool ﷺ masjid mein tashreef laye. Aap ke baad ek aur shakhs masjid mein daakhil huwa aur namaz padhne laga. Us ne namaz mein na itmenan se ruku kiya aur na hi sajdah. Phir namaz se farigh ho kar Allah ke Rasool ﷺ ke paas aaya aur aap ﷺ ko salaam kiya. Aap ﷺ ne uske salaam ka jawab diya aur farmaya: Wapas jao aur apni namaz dohrao kyunke tum ne namaz nahin padhi. Woh shakhs wapas gaya aur pahle hi ki tarah namaz padhi aur aakar dobarah aap ﷺ ko salaam kiya. Aap ne farmaya: wa'alaikas-salaam, wapas jao aur phir se namaz adaa karo kyunke tum ne namaz nahin padhi. Teen martaba isi tarah huwa. Yahan tak ke us shakhs ne kaha: Us zaat ki qasam jis ne aap ko haq de kar bheja hai, Aye Allah ke Rasool, main is se behtar namaz nahin padh sakta, aap hi mujhe sikha dijiye. Aap ﷺ ne farmaya: Jab tum namaz ke liye khade ho to takbeer kaho, phir jitna Quran tumhare paas ho us mein se jo bhi muyassar ho padho, phir ruku karo aur itmenan se ruku mein raho, phir ruku se khade ho jao aur etedaal se khade raho, phir sajde mein jao aur itmenan se sajde mein raho, phir sajde se uth kar baith jao aur itmenan se baitho, phir sajde mein jao aur itmenan se sajde mein raho, phir sajde se utho aur itmenan se baithey raho, phir poori namaz mein isi tarah karo. Jab tum ne aisa kiya to tumhari namaz poori ho gayi. Aur in mein se kisi cheez mein bhi tum ne kami ki to is se tumhari namaz mein bhi naqs paida ho jayega. [Bukhari wa Muslim]

عَنْ أُسَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ - وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ -

فَاخْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ: «اسْتَأْخِرْنَ

فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ»،

فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ نَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوفِهَا بِهِ.

(د) [الصحيحه ٨٥٦، صحيح الجامع ٩٢٩] (حسن)

اُسید انصاری ﷺ فرماتے ہیں:

کہ انہوں نے اللہ کے رسول ﷺ کو سنا جب آپ ﷺ مسجد سے باہر تھے اور راستے میں مرد و عورت کا ازدحام دکھائی دے رہا تھا۔ اللہ کے رسول ﷺ نے عورتوں سے کہا: تم پیچھے ہٹ جاؤ! تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم راستے کے بالکل بیچوں بیچ چلنے لگو، بلکہ تمہارے لیے مناسب یہ ہے کہ تم راستے کے کنارے سے چلو۔ آپ کا یہ حکم سننا تھا کہ عورتیں بالکل دیوار سے لگ کر چلنے لگیں، یہاں تک کہ ان کی چادریں بھی دیوار سے قریب ہو کر چلنے کی وجہ سے اس میں پھنس جاتی تھیں۔ [ابوداؤد]

Usaid Ansari ﷺ farmaatay hain ke:

Unhon ne Allah ke Rasool ﷺ ko suna jab aap ﷺ masjid se bahar thhey aur raaste mein mard-o-aurat ka izdihaam dikhayi de raha tha. Allah ke Rasool ﷺ ne aurton se kaha: Tum peeche hatt jao! Tumhare liye munasib nahin ke tum raaste ke bilkul beechon beech chalne lago, balke tumhare liye munasib yeh hai ke tum raaste ke kinare se chalo. Aap ﷺ ka yeh hukm sunna tha ke aurtein bilkul deewar se lag kar chalne lagien, yahan tak ke un ki chadarein bhi deewar se qareeb ho kar chalne ki wajah se us mein phans jaati thien.

[Abu Dawood]

عَنْ الْمُعِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَحْطَبُهَا
فَقَالَ: «اذْهَبْ فَاَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا»

فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَحَطَبْتُهَا إِلَى أَبِي يُوَيْهَا،
وَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ،

قَالَ: فَسَمِعْتُ ذَلِكَ الْمَرْأَةَ وَهِيَ فِي خَدْرِهَا
فَقَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ فَاَنْظُرْ،

وَأَلَّا فَاَنْشُدْكَ»، كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ.

قَالَ: «فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا»، فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا.

[حم ت ن هـ] [هـ بتحقيق الألباني ١٨٦٦]

مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

میں اللہ کے نبی ﷺ کے پاس آیا اور میں نے آپ سے ایک عورت کا تذکرہ کیا جسے میں نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جاؤ اور اسے ایک نظر دیکھ بھی لو، کیونکہ یہ چیز تم دونوں کے درمیان (نکاح کے بعد) تعلق کو مضبوط بنائے گی۔ پس میں انصار کی ایک خاتون کے گھر پہنچا اور اس کے والدین کے سامنے نکاح کا پیغام رکھا اور میں نے انہیں نبی ﷺ کی بات بھی سنائی۔ شاید انہیں یہ بات (کہ میں ان کی بیٹی کو دیکھ لوں) پسند نہیں آئی۔ لیکن وہ خاتون پردے کے پیچھے سے یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے کہا: اگر اللہ کے رسول ﷺ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے دیکھ لو تو دیکھ لیجیے ورنہ میں آپ کو اللہ کا خوف دلاتی ہوں۔ اس خاتون کی بات سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یہ چیز اس پر کتنی بھاری تھی۔ پس میں نے اسے دیکھا اور اس سے میرا نکاح بھی ہو گیا۔

راوی کہتے ہیں: پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح نکاح کے بعد ان دونوں میں اچھی طرح نبھاؤ ہوتا رہا۔

[مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ]

Mugheerah ibne shu'bah رضی اللہ عنہ farmaatey hain:

Main Allah ke Nabi ﷺ ke paas aaya aur main ne aap se ek aurat ka tazkira kiya jise mein nikah ka paigam bhejna chahta tha. Aap ﷺ ne farmaya: Jao aur usey ek nazar dekh bhi lo, kyuake yeh cheez tum donon ke darmiyan (nikah ke baad) ta'alluq ko mazboot banaye gi. Pas main Ansar ki ek khatoon ke ghar pahuncha aur uske walidain ke samne nikah ka paigam rakha, aur main ne unhen Nabi ﷺ ki baat bhi suna di. Shayad unhen yeh baat (ke main un ki beti ko dekh loon) pasand nahin aayi. Lekin woh khatoon parde ke peeche se yeh saari guftagu sun rahi thi. Us ne kaha: Agar Allah ke Rasool ﷺ ne aap ko hukm diya hai ke mujhe dekh lo to dekh leejiye warna main aap ko Allah ka khauf dilaati hoon. Is khatoon ki baat se saaf mehsoos ho raha tha ke yeh cheez us par kitni bhaari thi. Pas main ne usey dekha aur us se mera nikah bhi ho gaya.

Raawi kehte hain: Phir unhon ne yeh bhi bataya ke kis tarah nikah ke baad un donon mein achchi tarah nibhao hota raha. [Musnad Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibne Majah]

۱۵. نبی ﷺ کی منع کی ہوئی چیز سے بچنے کا اہتمام

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ،
حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«مَنْ يَضْمَنْ لِي وَاحِدَةً وَأَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ؟»
قَالَ: قُلْتُ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ!
قَالَ: «لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا»
قَالَ: فَكَانَ سَوَاطِثُ ثَوْبَانَ يَسْقُطُ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ
فَيُنْبِخُ حَتَّى يَأْخُذَهُ، وَمَا يَقُولُ لِأَحَدٍ نَاوِلْنِيهِ.
(حم د ن ه) واللفظ لأحمد [حم ۲۲۴۰۵] (صحيح)

عبدالرحمن بن یزیدؓ فرماتے ہیں:

مجھے اللہ کے رسول ﷺ کے غلام ثوبانؓ نے بتایا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: کون ہے جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دیدے، میں بھی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان نے فوراً کہا: میں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: لوگوں سے کبھی کچھ نہ مانگنا! پس اس کے بعد سے حضرت ثوبان کا حال یہ تھا کہ اگر وہ اونٹ پر بھی ہوتے اور ان کا کوڑا نیچے گر جاتا تو وہ اپنے اونٹ کو بٹھا کر نیچے اترتے اور وہ کوڑا خود اٹھاتے، لیکن کسی اور سے ہر گز بھی نہیں کہتے کہ ذرا وہ کوڑا اٹھا کر مجھے دیدو۔ [مسند احمد، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ]

15. Nabi ﷺ ki mana' ki hui cheez se bachne ka ehtemam

Abdur Rahman ibne Yazeed ؓ farmaatey hain:

Mujhe Allah ke Rasool ﷺ ke gulam Sauban ؓ ne bataya ke Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya: kaun hai jo mujhe ek cheez ki zamaanat dede, main bhi usey jannat ki zamaanat deta hoon. Hazrat Sauban ne fauran kaha: main, Aye Allah ke Rasool! Aap ne farmaya: logon se kabhi kuchh na maangna! Pas is ke baad se hazrat Sauban ka haal yeh tha ke agar woh oont par bhi hotay aur un ka koda neechे gir jaata to woh apne oont ko bitha kar neechे utarte aur woh koda khud uthate, lekin kisi aur se hargiz bhi nahin kehte ke zara woh koda utha kar mujhe dedo. [Musnad Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibne Majah]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ،

أَصْبْنَا حُمْرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ، فَطَبَخْنَا مِنْهَا،

فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

«أَلَا إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا،

[وفي رواية: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ حُلُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ] (١)

فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»،

فَأُكْفِيتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا.

[خ: الذبائح والصيد ٥٥٢٨ - م: الصيد والذبائح ويؤكل من الحيوان ٣٤ - (١٩٤٠)]

انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

جب اللہ کے رسول ﷺ نے خیبر فتح کیا تو ہمیں بستی کے باہر کچھ گدھے مل گئے۔ پس ہم نے ان کو (ذبح کر کے) پکایا۔ ابھی ہم اسی حال میں تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول ﷺ کے منادی کو پکارتے سنا، وہ کہہ رہا تھا: خبردار، اللہ اور اس کے رسول ﷺ تمہیں شہری گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں، کیونکہ وہ نجس ہے اور شیطانی عمل ہے۔ پھر کیا تھا ساری ہانڈیاں پلٹ دی گئیں حالانکہ گوشت ان میں ابل رہا تھا۔ [بخاری و مسلم]

Anas ibne Malik ؓ farmaatey hain:

Jab Allah ke Rasool ﷺ ne Khaibar fatah kiya to hamein basti ke bahar kuchh gadhe mil gaye. Pas hum ne un ko (zabah kar ke) pakaya. Abhi hum isi haal mein thhey ke hum ne Allah ke Rasool ﷺ ke munaadi ko pukarte suna, woh keh raha tha: Khabardaar, Allah aur uske Rasool ﷺ tumhen shehri ghadon ke gosht se mana' karte hain, kyunke woh najas hai aur shaitani amal hai. Phir kya tha saari haandiyan palat di gayeen halanke gosht un mein ubal raha tha. [Bukhari wa Muslim]

١ [خ: الذبائح والصيد ٥٥٢٨]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

أَنَّ الْحَمْرَ الَّتِي أَهْرَيْتَ الْفَضِيخُ^(١)،
قَالَ: كُنْتُ سَاقِي الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى،
فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَخْرُجْ فَانظُرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ،
قَالَ: فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ: هَذَا مُنَادٍ يُنَادِي: «أَلَا إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ»،
فَقَالَ لِي: اذْهَبْ فَأَهْرِقْهَا، قَالَ: فَجَرَّتْ فِي سِكَكِ^(٢) الْمَدِينَةَ،
[قَالَ: فَمَا رَاجِعُوهَا، وَلَا سَأَلُوا عَنْهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ].^(٣)
[خ: تفسير القرآن ٤٦٢٠ - م: الأشربة ٣ - (١٩٨٠)]

انس بن مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں:

جس شراب کو ہم نے بہایا تھا وہ فَضِيخ تھی۔

بات یہ ہے کہ میں ابو طلحہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا کہ اسی حال میں شراب کی حرمت کی آیتیں نازل ہو گئیں۔ اللہ کے رسول ﷺ نے ایک ندا لگانے والے کو حکم دیا تو اس نے ندا لگائی۔ ابو طلحہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے مجھ سے کہا: ذرا باہر جا کر دیکھو تو سہی کہ یہ آواز کیسی ہے؟ میں باہر گیا اور واپس آکر کہا: یہ منادی ہے جو ندا لگا رہا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ابو طلحہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے کہا: جاؤ اور یہ ساری شراب بہادو۔ پس حال یہ ہو گیا کہ شراب مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگی۔ اس ندا کے بعد نہ یہ حضرات شراب کی طرف واپس لوٹے اور نہ ہی انہوں نے اس بارے میں مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی۔ [بخاری و مسلم]

Anas ibne Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ farmaatey hain:

Jis sharaab ko hum ne bahaya tha woh fazeekh thi.

Baat yeh hai ke main Abu Talha رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ke ghar mein logon ko sharaab pila raha tha, ke isi haal mein sharaab ki hurmat ki aayaten nazil hogayin. Allah ke Rasool ﷺ ne ek nida lagaane waale ko hukm diya to us ne nida lagayi. Abu Talha رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ne mujh se kaha: Zara bahar ja kar dekho to sahi ke yeh aawaz kaisi hai? Main bahar gaya aur wapas aakar kaha: Yeh munaadi hai jo nida laga raha hai ke sharaab haraam hogayi hai. Yeh sunna tha ke Abu Talha رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ne kaha: Jao aur yeh saari sharaab baha do. Pas haal yeh ho gaya ke sharaab madinah ki galiyon mein bahne lagi. Is nida ke baad na yeh hazraat sharaab ki taraf wapas lautay aur na hi unhon ne is baare mein mazeed kuchh poochhne ki zaroorat mehsoos ki. [Bukhari wa Muslim]

^١ قال الجرجاني: الفضیخ هو أن يجعل التمر في إناء ثم يصب عليه الماء الحار فيستخرج حلاوته ثم يغلي ويشد فهو كالباق في أحكامه فإن طبخ أدنى طبخة هو كالمثلث [التعريفات ١٠٩٣] الْفَضِيخُ: الْفَضِيخُ شَرَابٌ يُتَّخَذُ مِنَ الْبُسْرِ وَحَدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّهُ النَّارُ [مختار الصحاح - ف ض خ]

^٢ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ: أَي فِي طَرَفِهَا [ابن حجر في الفتح]

^٣ [م: الأشربة ٤ - (١٩٨٠)]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ،
 وَقَالَ: «يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ، فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ»،
 فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ،
 قَالَ: لَا، وَاللَّهِ، لَا آخِذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. [م: اللباس والزينة ٥٢ - (٢٠٩٠)]

عبداللہ بن عباس رضي الله عنه فرماتے ہیں:

اللہ کے رسول ﷺ نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے نکال کر پھینک دیا، اور فرمایا: تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ آگ کا انگارہ اٹھا کر اسے ہاتھ میں پہن لیتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول ﷺ وہاں سے چلے گئے تو کسی نے ان صاحب سے کہا: اپنی انگوٹھی اٹھا لو، اسے اپنے کسی کام میں لے آنا۔ اس پر انھوں نے کہا: ہر گز نہیں، اللہ کی قسم، جس انگوٹھی کو اللہ کے رسول ﷺ نے پھینک دیا، میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ [مسلم]

Abdullah ibne Abbas رضي الله عنه farmaatey hain:

Allah ke Rasool ﷺ ne ek shakhs ke haath mein sone ki angothi dekhi to usey nikaal kar phenk diya, aur farmaya: Tum mein se baaz log aise hain ke aag ka angara utha kar usey haath mein pahen lete hain. Jab Allah ke Rasool ﷺ wahan se chale gaye to kisi ne un sahab se kaha: Aapni anguthi utha lo, usey apne kisi kaam mein le aana. Is par unhon ne kaha: Hargiz nahin, Allah ki qasam, jis anguthi ko Allah ke Rasool ﷺ ne phenk diya, main usey kabhi nahin uthaunga. [Muslim]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ!»

قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ. [د بتحقيق الألباني ٥٧١] (صحيح)

عبداللہ بن عمر رضي الله عنه فرماتے ہیں:

اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: کاش کہ (مسجد نبوی کا) یہ دروازہ ہم عورتوں کیلئے چھوڑ دیتے۔
 نافع کہتے ہیں: (اللہ کے رسول ﷺ کے اس فرمان کے بعد) عبداللہ بن عمر رضي الله عنه کبھی اُس دروازے سے داخل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ [ابوداؤد]

Abdullah ibne Umar رضي الله عنه farmaatey hain:

Allah ke Rasool ﷺ ne irshad farmaya: Kaash ke (Masjid-e-Nabawi ka) yeh darwaaza hum aurton ke liye chhod dete.

Nafe' kahte hain: (Allah ke Rasool ﷺ ke is farmaan ke baad) Abdullah ibne Umar رضي الله عنه kabhi us darwaze se daakhil nahin huwe, yahan tak ke un ki wafaat ho gayi.

[Abu Dawood]

عَنْ صَلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ:
 كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
 فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ: «كُلُوا»،
 فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ: «إِنِّي صَائِمٌ»
 فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ.
 (ن د هـ) [الإرواء ج ٤ ص ١٢٥ رقم ٩٦١] (صحيح)

صلہ بن زُفر فرماتے ہیں:

ہم حضرت عمار بن یاسرؓ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کے سامنے ایک بھونی ہوئی بکری پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا: کھاؤ۔ ایک شخص لوگوں سے الگ ہو گیا اور کہا: میں روزے سے ہوں۔ اس پر عمار بن یاسرؓ نے کہا: جس نے شک والے دن روزہ رکھا اس نے ابوالقاسم (یعنی اللہ کے رسول ﷺ) کی نافرمانی کی۔ [نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ]

16. Nabi ﷺ ke amr-o-nahin ki khilaaf warzi par nakeer

Silah ibne Zufar farmaatey hain:

Hum hazrat Ammar ibne Yasir ﷺ ke paas baithey thhey ke un ke samne ek bhooni hui bakri pesh ki gayi. Unhon ne kaha: khao. Ek shakhs logon se alag ho gaya aur kaha: Main rozey se hoon. Is par Ammaar ibne Yasir ﷺ ne kaha: jis ne shak wale din roza rakha us ne Abul-Qaasim (ya'ni Allah ke Rasool ﷺ) ki naafarmani ki.

[Nasai, Abu Dawood, Ibne Majah]

عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ قَالَ:

كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ،
فَإَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ؛ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي،
فَاتَّبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصْرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ،
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ. [م: المساجد ومواضع الصلاة ٢٥٨ - (٦٥٥)]

ابوشعثاء فرماتے ہیں:

ہم لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مؤذن نے اذان دی۔ ایک شخص اٹھا اور مسجد سے جانے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ شخص مسجد سے باہر نکل گیا۔ اس پر انہوں نے کہا: اس شخص نے ابو القاسم (یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم) کی نافرمانی کی۔ [مسلم]

Abu Sha'saa farmaatey hain:

Hum log Abu Hurairah رضی اللہ عنہ ke sath masjid mein baithey huwe thhey ke muazzin ne azaan di. Ek shakhs utha aur masjid se jaaney laga. Abu Hurairah رضی اللہ عنہ usey dekhte rahe yahan tak ke woh shakhs masjid se bahar nikal gaya. Is par unhon ne kaha: Is shakhs ne Abul-Qaasim (ya'ni Allah ke Rasool صلی اللہ علیہ وسلم) ki naafarmani ki. [Muslim]

عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حَدِيثِهِ،

رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ،

فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حَدِيثُهُ: «مَا صَلَّيْتَ»

قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «لَوْ مَتَّ مَتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم». [خ: الصلاة ٣٨٩]

ابو وائل فرماتے ہیں کہ:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو (نماز پڑھتے) دیکھا کہ وہ نہ تو ٹھیک سے رکوع کرتا ہے اور نہ ہی سجدے۔ جب اس کی نماز مکمل ہو گئی تو انہوں نے اس سے کہا: تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اور یہ بھی فرمایا: اگر تمہیں اسی حال میں موت آجاتی تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر مرتے۔ [بخاری]

Abu Waa'il farmaatey hain ke:

Hazrat Huzaifah رضی اللہ عنہ ne ek shakhs ko (namaz padhte) dekha ke woh na to theek se ruku karta hai aur na hi sajde. Jab us ki namaz mukammal ho gayi to unhon ne us se kaha: tum ne namaz nahin padhi. Aur yeh bhi farmaya: agar tumhen isi haal mein maut aa jaati to tum Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم ki sunnat se hatt kar martey. [Bukhari]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخُطِّبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،

إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ،

فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النَّدَاءِ؟

فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ،

مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النَّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ،

فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

«إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ».

[م: الجمعة ٤ - (٨٤٥)] واللفظ له عن أبي هريرة [خ: الجمعة ٨٧٨] عن ابن عمر

ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں:

جمعہ کا دن تھا، عمر بن خطابؓ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ اتنے میں عثمان بن عفانؓ مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اذان کے بعد بھی دیری کرتے ہیں! حضرت عثمان نے کہا: اے امیر المؤمنین، میں نے جیسے ہی اذان کی آواز سنی فوراً وضو کیا اور مسجد چلا آیا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر نے فرمایا: صرف وضو کیا؟ کیا تم نے اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان نہیں سنا ہے کہ: جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کیلئے آئے تو غسل کر لے؟ [بخاری و مسلم]

Abu Hurairah ؓ farmaatey hain:

Jumu'ah ka din tha, Umar ibne Khattab ؓ logon ko khutba de rahe thhey. Itne mein Usmaan ibne Affan ؓ masjid mein daakhil huwe. Hazrat Umar ؓ ne un ki taraf ishara karte huwe farmaya: Logon ko kya ho gaya hai ke woh azaan ke baad bhi deri karte hain! Hazrat Usmaan ne kaha: Aye Ameer-ul-momineen, mein ne jaise hi azaan ki aawaz suni fauran wuzu kiya aur masjid chala aaya. Yeh sunna tha ke hazrat Umar ne farmaya: Sirf wuzu kiya? Kya tum ne Allah ke Rasool ﷺ ka farmaan nahin suna hai ke: Jab tum mein se koi shakhs Juma ke liye aaye to gusl kar le? [Bukhari wa Muslim]

عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
 كُنَّا فِي جَنَازَةٍ، فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ   بِيَدِ مَرْوَانَ
 فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ   فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ،
 فَقَالَ: قُمْ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا «أَنَّ النَّبِيَّ   نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ»
 فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَدَقَ. [خ: الجنائز ١٣٠٩]

سعید مقبری کے والد کیسان   فرماتے ہیں:

ہم ایک جنازے میں تھے۔ ابو ہریرہ   نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور دونوں بیٹھ گئے جبکہ ابھی جنازہ نیچے نہیں رکھا گیا تھا۔ پس ابو سعید   آئے اور مروان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور فرمایا: کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، انہیں (یعنی ابو ہریرہ کو) معلوم ہے کہ اللہ کے رسول   نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ (یعنی جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنے سے۔) اس پر ابو ہریرہ   نے فرمایا: انہوں نے سچ کہا۔

[بخاری]

Sa'eed Miqbuli ke walid Keesan   farmaatey hain:

Hum ek janaze mein thhey. Abu Hurairah   ne Marwan ka haath paakda aur donon baith gaye jabke abhi janaza neeche nahin rakha gaya tha. Pas Abu Sa'eed   aaye aur Marwan ka haath pakad kar usey uthaya aur farmaya: khade ho jao. Allah ki qasam inhen (ya'ni Abu Hurairah ko) maloom hai ke Allah ke Rasool   ne hamein is se mana' farmaya hai. (ya'ni janaza rakhne se pahle bethne se) is par Abu Hurairah   ne farmaya: inhon ne sach kaha. [Bukhari]

عَنْ مُجَاهِدٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ»

فَقَالَ ابْنُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: لَا نَدْعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَ دَعَاً!

قَالَ: فَزَبْرُهُ^(۱) [وفي رواية: فَضْرَبَ فِي صَدْرِهِ]^(۲) ابْنُ عُمَرَ

وَقَالَ: أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ لَا نَدْعُهُنَّ! [م: الصلاة ۱۳۸ - (۴۴۲)]

ولأحمد: فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللَّهِ حَتَّى مَاتَ.

(حم) [صحيح أبي داود - الأم (۳/ ۱۰۶)] (وإسنادها صحيح)

مجاہد ﷺ فرماتے ہیں:

عبداللہ بن عمر ﷺ نے ایک مرتبہ ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا: اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: خواتین کو رات میں مسجد جانے سے مت روکو۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کے ایک بیٹے نے کہا: ہمیں انہیں رات کے وقت گھر سے باہر نکلنے نہیں دینا چاہیے ورنہ وہ اسے فتنہ بازی کا ذریعہ بنا لیں گی۔ یہ سننا تھا کہ عبداللہ بن عمر ﷺ نے اسے سختی سے ڈانٹا (اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے سینے پر ایک گھونسا مارا) اور فرمایا: میں اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان بیان کر رہا ہوں اور تو کہتا ہے ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے؟
مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے موت تک اس سے بات نہیں کی۔ [مسند احمد]

17. Nabi ﷺ ke hukm ki mukhalafat par gussa hona

Mujahid ﷺ farmaatey hain:

Abdullah ibne Umar ﷺ ne ek martaba ek hadees bayan karte huwe farmaya: Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya: Khawateen ko raat mein masjid jaaney se mat roko. Yeh sun kar hazrat Abdullah ibne Umar ﷺ ke ek bete ne kaha: Hamein unhen raat ke waqt ghar se bahar nikalne nahin dena chahiye warna woh isey fitne-baazi ka zariya bana lengi. Yeh sunna tha ke Abdullah ibne Umar ﷺ ne usey sakhti se danta (aur ek riwayat mein hai ke uske seene par ek ghoonsa mara) aur farmaya: Main Allah ke Rasool ﷺ ka farmaan bayan kar raha hoon aur tu kehta hai hum unhen nahin chhodenge?

Musnad Ahmad ki riwayat mein hai ke is ke baad hazrat Abdullah ibne Umar ﷺ ne maut tak us se baat nahin ki. [Musnad Ahmad]

^۱ (۱) (فَزَبْرُهُ) أَي نَهَرُهُ [شرح النووي على مسلم (۴/ ۱۶۲)] قال الشيخ الأئوبى ﷺ: وقوله: (فَزَبْرُهُ ابْنُ عُمَرَ) أي انتهره، قال القاضي عياض ﷺ: قال

صاحب «الأفعال»: يقال: زَبَرْتُ الْكِتَابَ: إِذَا كَتَبْتَهُ، وَالشَّمِيءُ: قِطْعَتُهُ، وَالرَّجُلُ: انْتَهَرْتَهُ، وَالْبَمْرُ: طَوَيْتُهَا بِالْحِجَارَةِ. [البحر المحیط الثجاج (۱۰/ ۳۱۵)]

^۲ (۲) م: الصلاة ۱۳۹ - (۴۴۲)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ،

قَالَ: فَفَنَهَا، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذَفِ،

وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكُأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ»،

قَالَ: فَعَادَ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ، ثُمَّ تَخَذَفَ، لَا أَكَلِمَكَ أَبَدًا.

[خ: الذبائح والصيد ٥٤٧٩ - م: الصيد والذبائح ٥٦ - (١٩٥٤)] واللفظ لمسلم

سعید بن جبیر ﷺ فرماتے ہیں کہ:

عبداللہ بن مغفل ﷺ کا ایک قریبی رشتہ دار تھا، انہوں نے اسے خذف کرتے ہوئے (یعنی انگلی پر کنکری رکھ کر اڑاتے ہوئے) دیکھا تو اسے منع کیا، اور کہا: اللہ کے رسول ﷺ نے خذف سے منع کیا ہے۔ آپ ﷺ فرماتے تھے: خذف سے نہ شکار ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دشمن زخمی ہوتا ہے البتہ اس سے دانت ٹوٹ جاتا ہے اور آنکھ پھوٹ جاتی ہے۔ (لیکن حضرت عبداللہ بن مغفل نے دیکھا کہ منع کرنے کے باوجود) اس رشتہ دار نے دوبارہ وہی حرکت کی تو فرمایا: میں نے تمہیں حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول ﷺ نے اس سے منع کیا ہے لیکن تم پھر خذف کرنے لگ گئے؟ آج کے بعد میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ [بخاری و مسلم]

Sa'eed ibne Jubair ﷺ farmaatey hain ke:

Abdullah ibne Mugaffal ﷺ ka ek qareebi rishte-daar tha, unhon ne usey khazaf karte huwe (ya'ni ungli par kankari rakh kar udaate huwe) dekha to usey mana' kiya, aur kaha: Allah ke Rasool ﷺ ne khazaf se mana' kiya hai. Aap ﷺ farmaatey thhey: Khazaf se na shikaar hota hai aur na hi koi dushman zakhmi hota hai Albatta is se daant toot jaata hai aur aankh phoot jati hai. (Lekin hazrat Abdullah ibne Mugaffal ne dekha ke mana' karne ke bawajood) us rishte-daar ne dobarah wahi harkat ki to farmaya: Main ne tumhen hadees sunayi ke Allah ke Rasool ﷺ ne is se mana' kiya hai lekin tum phir khazaf karne lag gaye? Aaj ke baad main tum se kabhi baat nahin karunga. [Bukhari wa Muslim]

عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ:
 كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَسْقَى،
 فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِقَدَحِ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ،
 فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُرْمِهِ إِلَّا أَبِي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهَ،
 وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ وَالذَّبْيَاجِ، وَالشُّرْبِ فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،
 وَقَالَ: «هُنَّ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ».
 [خ: الأشربة ٥٦٣٢ - م: اللباس والزينة ٤ - (٢٠٦٧)] واللفظ للبخاري

ابن ابی لیلی فرماتے ہیں:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے، انہوں نے پانی مانگا تو ایک دیہاتی سردار ان کیلئے ایک چاندی کے برتن میں پانی لے کر آیا۔ انہوں نے وہ برتن اٹھا کر پھینک دیا اور کہا: میں نے یہ برتن بس اسی لیے پھینکا ہے کہ میں اسے کئی مرتبہ منع کر چکا ہوں لیکن یہ باز نہیں آتا۔ اللہ کے نبی ﷺ نے ہمیں باریک اور موٹا ریشم پہننے سے اور سونے چاندی کے برتن میں پینے سے منع کر دیا ہے۔ آپ ﷺ فرماتے تھے: یہ ان کے لیے (یعنی کفار کے لیے) دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں! [بخاری و مسلم]

Ibne Abee Laila farmaatey hain:

Hazrat Huzaifah ؓ Madayain mein thhey, unhon ne paani manga to ek dehati sardar un ke liye ek chaandi ke bartan mein pani le kar aaya. Unhon ne woh bartan utha kar phenk diya aur kaha: Main ne yeh bartan bas isi liye phenka hai ke main isey kayi martaba mana' kar chuka hoon lekin yeh baaz nahin aataa. Allah ke Nabi ﷺ ne hamein baareek aur mota resham pahenne se aur sonay chandi ke bartan mein peene se mana' kar diya hai. Aap ﷺ farmaatey thhey: Yeh un ke liye dunya mein hain aur tumhare liye aakhirat mein! [Bukhari wa Muslim]

۱۸. نبی ﷺ کے قول و عمل کو اپنے لیے کافی سمجھنا

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ

فَمَا أَسْمَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا، أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ.

[خ: الأذان ۷۷۲ - م: الصلاة ۴۴ - (۳۹۶)] واللفظ لمسلم

عطاءؓ بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ نے فرمایا:

ہر نماز میں قرأت ہے۔ پس (جن نمازوں میں) اللہ کے نبی ﷺ نے ہمیں (جہر کر کے) سنایا، ہم بھی تمہیں (جہر کر کے) سناتے ہیں اور (جن نمازوں میں) اللہ کے نبی ﷺ نے (سری قرأت کر کے) ہم سے چھپایا، ہم بھی تم سے (سری قرأت کر کے) چھپاتے ہیں۔

[بخاری و مسلم]

18. Nabi ﷺ ke qaul-o-amal ko apne liye kaafi samajhna

Ata ؓ bayan karte hain ke Abu Hurairah ؓ ne farmaya:

Har namaz mein qirat hai. Pas (jin namazon mein) Allah ke Nabi ﷺ ne hamein (jahr karke) sunaya, hum bhi tumhen (jahr karke) sunaate hain aur (jin namazon mein) Allah ke Nabi ﷺ ne (sirri qirat karke) hum se chhupaya, hum ne bhi tum se (sirri qirat karke) chupaate hain. [Bukhari wa Muslim]

عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ
 أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  :
 إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ،
 وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ،
 فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «يَا ابْنَ أَخِي،
 إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا   وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا،
 وَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا   يَفْعَلُ».
 (حم ن هـ) [ن بتحقيق الألباني ١٤٣٤] (صحيح)

أمیہ بن عبد اللہ بن خالد بیان کرتے ہیں کہ:

انہوں نے عبد اللہ بن عمر   سے کہا: ہمیں قرآن میں حضر اور خوف کی نماز کا ذکر تو ملتا ہے لیکن سفر کی نماز کا ذکر نہیں ملتا! اس پر عبد اللہ بن عمر   نے فرمایا: اے میرے بھتیجے، اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف محمد   کو رسول بنا کر بھیجا جبکہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس لیے ہم تو بس وہی ہی کرتے ہیں جیسے ہم نے اللہ کے رسول   کو کرتے دیکھا ہے۔ [مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ]

Umayyah ibne Abdullah ibne Khalid bayan karte hain ke:

Unhon ne Abdullah ibne Umar   se kaha: Hamein Quran mein Hazar aur khauf ki namaz ka zikr to milta hai lekin safar ki namaz ka zikr nahin milta! Is par Abdullah ibne Umar   ne farmaya: Aye mere bhateje, Allah Ta'ala ne hamari taraf Muhammad   ko Rasool bana kar bheja jabke hum kuchh bhi nahin jaante thhey. Is liye hum to bas wahi karte hain jaise hum ne Allah ke Rasool   ko karte dekha hai.

[Musnad Ahmad, Nasai, Ibn Majah]

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟
فَقَالَتْ: أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرْوَرِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ،
قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقِضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقِضَاءِ الصَّلَاةِ.

[م الحیض ۶۹ - (۳۳۵) - خ: الحیض ۳۲۱ نحوه] واللفظ لمسلم

معاذہ ﷺ فرماتی ہیں:

میں نے حضرت عائشہ ﷺ سے پوچھا: ایسا کیوں ہے کہ حائضہ اپنے (چھوٹے ہوئے) روزوں کی قضا تو کرتی ہے لیکن نمازوں کی قضا نہیں کرتی؟ حضرت عائشہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم حروریہ ہو؟ (یعنی کیا تم خارجی فریق کی ہو؟) میں نے کہا: میں حروریہ نہیں ہوں، لیکن میں بس پوچھ رہی ہوں۔ حضرت عائشہ ﷺ نے فرمایا: ہمیں اللہ کے رسول ﷺ کے زمانے میں حیض کی حالت پیش آتی تھی، اُس وقت ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ [بخاری و مسلم]

Mu'aazah ﷺ farmaati hain:

Main ne hazrat Aisha ﷺ se poochha: Aisa kyun hai ke haaizah apne (chhootay huwe) rozon ki qaza to karti hai lekin namazon ki qaza nahin karti? Hazrat Aisha ﷺ ne farmaya: Kya tum harooriyyah ho? (Ya'ni kya tum khaarji firqe ki ho?) Main ne kaha: Main harooriyyah nahin hoon, lkein main bas poochh rahi hoon. Hazrat Aisha ﷺ ne farmaya: Hamein Allah ke Rasool ﷺ ke zamane mein haiz ki haalat pesh aati thi, us waqt hamein rozon ki qaza ka hukm to diya jaata tha lekin namazon ki qaza ka hukm nahin diya jaata tha. [Bukhari wa Muslim]

عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، قَالَ:
 كَانَ طَاوُسٌ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ،
 فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «اتْرُكْهَا»
 فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ عَنْهُمَا أَنْ تَتَّخِذَ سَلْمًا
 أَنْ يُوَصِّلَ ذَلِكَ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ،
 قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ،
 وَمَا أَدْرِي أَيْعَذُّبُ عَلَيْهِ أَمْ يُؤَجِّرُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ:
 {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} . [الأحزاب: ٣٦]

(ك ٣٧٣) قال الذهبي: على شرطهما.

ہشام بن حُجیر فرماتے ہیں کہ:

طاؤس ؓ عصر کے بعد دو رکعتیں ادا کرتے تھے۔ عبد اللہ بن عباس ؓ نے ان سے کہا: اسے چھوڑ دو۔ طاؤس ؓ کہنے لگے: ہمیں ان دو رکعتوں سے تو بس اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ لوگ اسے ذریعہ نہ بنالیں اور یہ چیز غروبِ شمس کے وقت نماز کا سبب نہ بن جائے۔ اس پر ابن عباس ؓ نے فرمایا: بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور میں نہیں جانتا کہ اس عمل پر نمازی کو اجر ملے گا یا عذاب ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} . [الأحزاب: ٣٦]

کہ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کیلئے ہر گز بھی اس بات کی گنجائش نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں اور اس کے بعد بھی ان کے لیے اُس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ [حاکم]

Hisham ibne Hujair farmaatey hain ke:

Taa'oos ؓ Asr ke baad do rak'aten ada karte thhey. Abdullah ibne Abbas ؓ ne un se kaha: Isey chhod do. Ta'oos ؓ kehne lagey: Hamein in do rak'aton se to bas isi liye mana' kiya gaya hai ke log isy zariya na bana len aur yeh cheez guroob-e-shams ke waqt namaz ka zariya na ban jaaey. Is par Ibne Abbas ؓ ne farmaya: Baat ye hai ke Allah ke Nabi ﷺ ne Asr ke baad namaz padhne se mana' farmaya hai aur main nahin jaanta ke is amal par namazi ko ajr milega ya azaab hoga. Is liye ke Allah ta'ala ka farmaan hai:

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} . [الأحزاب ٣٦]

Ke kisi momin mard aur kisi Mominah aurat ke liye hargiz bhi is baat ki gunjaish nahin ke Allah aur uska Rasool kisi mu'amle mein faisla kar dein aur iske baad bhi un ke liye us mu'amle mein koi ikhtiyar baaqi rah jaaey. [Haakim]

۱۹. قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی طرف رجوع کرنا

عن عائشة رضی اللہ عنہا:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ».

قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ!

أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

{فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا}

قَالَ: [لَيْسَ ذَلِكَ الْحِسَابُ] ^(۱) ذَلِكَ الْعَرَضُ يُعْرَضُونَ،

[فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ؟

فَقَالَ: «الرَّجُلُ تُعْرَضُ عَلَيْهِ ذُنُوبُهُ، ثُمَّ يُتَجَاوَزُ لَهُ عَنْهَا» ^(۲) وَمَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ.

[خ: التفسير ۴۹۳۹ - م: كِتَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا ۸۰ - (۲۸۷۶)] واللفظ للبخاري

عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ:

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (قیامت کے دن) جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوگا۔ فرماتی ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا فدیہ بنا دے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا:

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾

کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: یہ حساب نہیں ہے، یہ تو بس ایک پیشی ہوگی۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول، پھر آسان حساب ہے کیا؟ فرمایا: (آسان حساب یہ ہے کہ) آدمی پر اس کے گناہ پیش کئے جائیں گے، پھر ان کے معاملے میں اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جائے گا۔ البتہ جس کا حساب ادا ہوا ہو گیا وہ ضرور ہلاک ہوگا۔

[بخاری و مسلم]

19. Quran ko samajhne ke liye sunnat ki taraf ruju' karna

Aaisha رضی اللہ عنہا bayan karti hain ke:

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya: (Qiyamat ke din) jis shakhs ka hisaab liya gaya woh halaak hoga. Farmaati hain: Main ne kaha: Aye Allah ke Rasool, Allah ta'ala mujhe aap ka fitya bana de. Kya Allah ta'ala ne yun nahin farmaya:

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾

Ke jis ka naama-e-aamaal uske dayen haath mein de diya gaya, us se aasaan hisaab liya jayega? Aap ne farmaya: Yeh hisaab nahin hai, yeh to bas ek peshi hogi. Main ne kaha: Aye allah ke Rasool ﷺ phir aasaan hisaab hai kya? Farmaya: [Aasaan hisab yeh hai ke] Aaadmi par uske gunah pesh kiye jayenge, phir unke mu'amle mein uske sath dar guzar ka mu'amla kiya jaaey ga. Albatta jis ka hisaab udheda gaya woh zaroor halaak hoga.

[Bukhari wa Muslim]

^۱ [م: كِتَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا ۷۹ - (۲۸۷۶)]

^۲ (حم السنة لابن أبي عاصم) (حم ۲۵۵۱۵، ظلال الجنة للألباني ۸۸۵) (إسناده صحيح)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: ٨٢]
شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالُوا: [يَا رَسُولَ اللَّهِ،] ^(١) أَيُّنَا لَمْ يَظْلَمْ نَفْسَهُ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ، [إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكَ،] ^(٢)
إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: {يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}» [لقمان: ١٣]
[خ: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ٦٩٣٧ - م: الإيمان ١٩٧ - (١٢٤)] والسياق للبخاري

عبد اللہ بن مسعود رضي الله عنه فرماتے ہیں:

جب یہ آیت نازل ہوئی:

{الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: ٨٢]

«جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی»۔ تو یہ چیز صحابہ کیلئے بڑی بھاری ثابت ہوئی۔ انہوں نے اللہ کے رسول ﷺ سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو؟ (یعنی گناہ نہ کیا ہو)۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ یہاں (ظلم سے) مراد شرک ہے۔ یہ وہی بات ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی تھی:

{يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: ١٣]

اے بیٹے، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ [بخاری و مسلم]

Abdullah ibne Mas'ood رضي الله عنه farmaatey hain:

Jab yeh aayat naazil hui:

{الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام ٨٢]

"Jo log imaan laaye aur unhon ne apne imaan mein zulm ki milawat nahin ki". To yeh cheez sahaba ke liye badi bhaari saabit hui. Unhon ne Allah ke Rasool ﷺ se arz kiya: Aye Allah ke Rasool, hum mein se kaun aisa hai jis ne apne upar zulm na kiya ho? (ya'ni gunah na kiya ho.) Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya: Baat who nahin hai jo tum samajh rahe ho, balke yahan (zulm se) murad shirk hai. Yeh wahi baat hai jo luqman ne apne bete se kahi thi:

{يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان ١٣]

Aye betey, Allah ke sath kabhi shirk na karna kyunke shirk zulm-e-azeem hai.

[Bukhari wa Muslim]

^١ [خ: كآحاديت الأنبياء ٣٣٦٠]

^٢ (١) [خ: أحاديث الأنبياء ٣٤٢٩]

عَنْ عَلِيِّ   قَالَ:

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ

لَكَانَ أَسْفَلَ الخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ

وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ   يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفِّهِ. (د) [د بتحقيق الألباني ١٦٢] (صحيح)

علی   فرماتے ہیں:

اگر دین کا مدار رائے پر ہوتا تو خفین (یعنی چمڑے کے موزوں) کے نچلے حصے پر مسح کرنا اوپری حصہ پر مسح کرنے سے زیادہ اولیٰ ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول   کو موزوں کے اوپری حصہ ہی پر مسح کرتے دیکھا ہے۔ [ابوداؤد]

20. Sunnat ko aql aur raaye par tarjeeh dena

Ali   farmaatey hain:

Agar deen ka madaar raaye par hota to khuffain (ya'ni chamde ke mozon) ke nichle hisse per masah karna oopri hisse per masah karne se ziyada aula hota. Lekin baat yeh hai ke main ne Allah ke Rasool   ko mozon ke oopri hisse hi par masah karte dekha hai.

[Abu Dawood]

عَنْ عَبَّاسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ  

أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجْرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ

فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجْرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ

وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ   يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. [خ: الحج: ١٥٩٧ - م: الحج: ٢٥٠ - (١٢٧٠)]

عابس بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ:

حضرت عمر بن خطاب   حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دیا۔ پھر فرمایا: مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تو بس ایک پتھر ہے، نہ ضرر پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر میں نے اللہ کے رسول   کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے ہر گز بھی نہ چومتا۔

[بخاری و مسلم]

Aabis ibne Rabee'ah farmaatey hain ke:

Hazrat Umar ibne Khattab   Hajar-e-Aswad ke paas aaye aur usey bosa diya. Phir farmaya: Mujhe achchi tarah maaloom hai ke tu bas ek patthar hai, na zarar pahuncha sakta hai na nafa'. Agar main ne Allah ke Rasool   ko tujhe choomte huwe na dekha hota to main tujhe hargiz bhi na choomta. [Bukhari wa Muslim]

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

أَتَى عَلِيٌّ ﷺ بِزَنَادِقَةٍ

[وفي رواية: بِنَاسٍ مِنَ الزُّطِّ يَعْبُدُونَ وَتَنَا] ^(۱)

[وفي رواية: بِقَوْمٍ قَدْ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ] ^(۲) فَأَخْرَفَهُمْ

[وفي رواية: مَعَهُمْ كُتُبٌ، فَأَمَرَ بِنَارٍ فَأَجِجَتْ فَأَلْقَاهُمْ فِيهَا بِكُتُبِهِمْ] ^(۳)

فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُخْرِفُهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. [خ: استتابة المرتدين ٦٩٢٢]

وفي رواية: فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ. [ت بتحقيق الألباني ١٤٥٨] (صحيح)

عکرمہ فرماتے ہیں:

حضرت علیؑ کے پاس زنادقہ کو لایا گیا۔ [ایک روایت میں ہے: کچھ جٹ لوگوں کو لایا گیا جو بتوں کی پرستش کرنے لگے تھے۔]

[ایک روایت میں ہے: ایسے لوگوں کو لایا گیا جو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔] حضرت علیؑ نے انہیں جلادیا۔

[ایک روایت میں ہے: ان کے پاس کچھ کتابیں تھیں، حضرت علیؑ نے حکم دیا تو آگ جلائی گئی اور انہیں ان کتابوں سمیت آگ میں ڈال

دیا گیا۔] جب اس واقعہ کی خبر ابن عباسؓ کو ملی تو انہوں نے کہا: اگر میں ہوتا تو انہیں جلاتا تو انہیں کیونکہ اللہ کے نبیؐ نے اس سے منع

فرمایا ہے۔ بلکہ میں انہیں قتل کرتا کیونکہ اللہ کے رسولؐ کا فرمان ہے: جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو۔ [بخاری]

[ایک روایت میں ہے: جب یہ بات حضرت علیؑ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا: ابن عباس نے سچ کہا۔] [ترمذی]

21. Sunnat ko shakhsiaat par tarjeeh dena

Ikrimah ﷺ farmaatey hain:

Hazrat Ali ﷺ ke paas zanadiqah ko laya gaya. [ek riwayat mein hai: Kuchh jatt logon ko laya gaya jo buton ki parastish karne lagey thhey.] [ek riwayat mein hai: Aise logon ko laya gaya jo Islam se murtad ho gaye thhey.] Hazrat Ali ﷺ ne unhen jala diya.

[ek riwayat mein hai: Unke paas kuchh kitaaben thien, hazrat Ali ﷺ ne hukm diya to aag jalaayi gayi aur unhen un kitabon samet aag mein daal diya gaya.]

Jab is waqiye ki khabar Ibne Abbas ﷺ ko mili to unhon ne kaha: Agar main hota to unhen jalata nahin, kyunke Allah ke Nabi ﷺ ne is se mana' farmaya hai. Balke main unhen qatl karta kyunke Allah ke Rasool ﷺ ka farmaan hai: Jo apna deen badal de usey qatal kar do.

[Bukhari]

[ek riwayat mein hai: Jab yeh baat hazrat Ali tak pahunchi to unhon ne farmaya: Ibne Abbas ne sach kaha.] [Tirmizi]

^۱ (حم ن) [ن بتحقيق الألباني ٤٠٦٥] (صحيح)

^۲ (حب) [حب ٥٦٠٦، التعليقات الحسان ٥٥٧٧] (صحيح)

^۳ (حم حب) [حب ٥٦٠٦، التعليقات الحسان ٥٥٧٧] (صحيح)

عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
 أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاوِيَةَ بِالْبَيْتِ
 فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا،
 فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِمَ تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ؟
 وَلَمْ يَكُنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا
 فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُورًا
 فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١]
 فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: صَدَقْتَ. [حم بتحقيق الأرنؤوط الرسالة ١٨٧٧] (حسن لغيره)

مجاہدؓ فرماتے ہیں کہ:

عبداللہ بن عباسؓ نے حضرت معاویہؓ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا تو حضرت معاویہ کعبہ کے چاروں ارکان کا استلام کرنے لگے۔ ابن عباسؓ نے ان سے کہا: آپ ان دونوں رکنوں کو کیوں چھو رہے ہیں؟ اللہ کے رسولؐ انہیں نہیں چھوتے تھے۔ اس پر حضرت معاویہؓ فرمانے لگے: بیت اللہ کا کوئی بھی حصہ چھونا منع نہیں ہے۔ اس پر ابن عباسؓ نے کہا:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ [سورۃ الاحزاب: ۲۱]

حضرت معاویہؓ نے کہا: تم نے سچ کہا۔ [مسند احمد]

Mujahid ؓ farmaatey hain ke:

Abdullah ibne Abbas ؓ ne hazrat Mu'awiyah ؓ ke sath baitullah ka tawaf kiya to hazrat Mu'awiyah ka'bah ke chaaron arkaan ka istelaam karne lagay. Ibne Abbas ؓ ne un se kaha: Aap un donon ruknon ko kyun chhu rahe hain? Allah ke Rasool ؐ unhen nahin chhutey thhey. Is par hazrat Mu'awiyah ؓ farmane lagay: Baitullah ka koi bhi hissa chhoona mana' nahin hai. Is par Ibne Abbas ؓ ne kaha:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

Tumhare liye Allah ke Rasool mein behtareen namuna maujood hai. [Surat ul Ahzaab: 21]

Hazrat Mu'awiyah ؓ ne kaha: Tum ne sach kaha. [Musnad Ahmad]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ

فَاسْتَشَارَ فِيهَا أَنَسًا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ

مُرَّ بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟

قَالُوا: مَجْنُونَةٌ بِنْتُ فُلَانٍ زَنَتْ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ.

قَالَ: فَقَالَ: ارْجِعُوا بِهَا، ثُمَّ أَتَاهُ،

فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ

عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ؟

قَالَ: بَلَى! قَالَ: فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ؟ قَالَ: لَا شَيْءَ.

قَالَ: فَأَرْسَلَهَا! قَالَ: فَأَرْسَلَهَا. قَالَ: فَجَعَلَ يُكَبِّرُ.

(د حم) [د بتحقيق الألباني ٤٣٩٩] (صحيح) [الإرواء ج ٢ ص ٥ تحت رقم ٢٩٧] (صحيح)

عبداللہ بن عباس ؓ فرماتے ہیں:

حضرت عمر ؓ کے پاس ایک پاگل عورت کو لایا گیا جس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ حضرت عمر ؓ نے لوگوں سے مشورہ کیا اور حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے۔ لوگ (اس حکم کے نفاذ کیلئے) اس عورت کو لے کر جا رہے تھے کہ ان کا گزر حضرت علی ؓ پر ہوا۔ حضرت علی نے پوچھا: اس عورت کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا: یہ ایک پاگل عورت ہے، اس نے زنا کیا تھا اس لیے حضرت عمر نے حکم دیا ہے کہ اسے رجم کر دیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا: اسے (حضرت عمر کے پاس) واپس لے چلو۔ پھر وہ خود بھی حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا: اے امیر المؤمنین، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ تین لوگوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے؟ مجنون سے جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے، اور سوئے ہوئے شخص سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے اور بچے سے جب تک کہ وہ سمجھدار (یعنی بالغ) نہ ہو جائے؟ حضرت عمر نے کہا: ہاں! کہا: پھر اس عورت پر کیا گناہ ہے جو اسے رجم کیا جا رہا ہے؟ فرمایا: کچھ نہیں! کہا: تو اسے چھوڑ دیجیے! پس حضرت عمر نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور تکبیر کہنے لگے۔ [ابوداؤد، مسند احمد]

Abdullah ibne Abbas ؓ farmaatey hain:

Hazrat Umar ؓ ke paas ek pagal aurat ko laya gaya jisne zina ka irtikaab kiya tha. Hazrat Umar ؓ ne logon se is mashwarah kiya aur hukm diya ke usey rajm kar diya jaaey. Log (is hukm ke nifaaz ke liye) us aurat ko lekar ja rahe thhey ke unka guzar hazrat Ali ؓ par huwa. Hazrat Ali ne poochha: Is aurat ka kya muamla hai? Logon ne kaha: Yeh ek pagal aurat hai, is ne zina kiya tha is liye hazrat Umar ؓ ne hukm diya hai ke usey rajm kar diya jaaey. Hazrat Ali ؓ ne farmaya: Isey (hazrat Umar ke paas) wapas le chalo. Phir woh khud bhi hazrat Umar ؓ ke paas aaye aur kaha: Aye ameer-ul-momineen, kya aap ko maloom nahin ke teen logon se qalam utha liya gaya hai? Majnoon se jab tak ke woh theek na ho jaaey, aur soye huwe shakhs se jab tak ke woh bedaar na ho jaaey aur bachche se jab tak ke woh samajhdaar (ya'ni baalig) na ho jaaey? Hazrat Umar ؓ ne kaha: Haan! Kaha: Phir is aurat par kya gunah hai jo ise rajm kiya ja raha hai? Farmaya: kuchh nahin! Kaha: To isey chhod dijiye! Pas hazrat Umar ؓ ne us aurat ko chhod diya aur takbeer kahne lagey. [Abu Dawood, Musnad Ahmad]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانَ
وَهُوَ يُنْشِدُ الشَّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ،
فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ،
ثُمَّ التَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَنْشِدْكَ اللَّهُ أَسْمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
«أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَبْدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ»؟ قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ!
[ولأبي داود: «فَحَشِيَ أَنْ يَرْمِيَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَجَازَهُ»^(۱)
خ: بدء الخلق ۳۲۱۲ - م: فضائل الصحابة ۱۵۱ - (۲۴۸۵) واللفظ لمسلم

ابو ہریرہ ؓ فرماتے ہیں:

حضرت عمر ؓ کا گزر حسان بن ثابت ؓ پر ہوا جو مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے انہیں غصہ سے دیکھا تو وہ کہنے لگے: میں مسجد میں ایسی شخصیت کی موجودگی میں شعر کہتا تھا جو آپ سے بہتر تھی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ ؓ سے مخاطب ہو کر کہا: میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ نے اللہ کے رسول ﷺ کو یوں فرماتے نہیں سنا؟! "میری طرف سے کفار و مشرکین کو جواب دو۔ اے اللہ، روح القدس کے ذریعہ اس کی مدد فرما"؟ حضرت ابو ہریرہ ؓ نے کہا: ہاں! ابو داؤد کی روایت میں ہے: حضرت عمر کو خوف ہوا کہ کہیں حضرت حسان حضرت عمر پر نبی ﷺ کی مخالفت کا الزام نہ لگادیں، اس لیے انہوں نے اس کی اجازت دیدی۔ [بخاری و مسلم]

22. Sunnat ke samne aate hi apni baat se rujoo' karna

Abu Hurairah ؓ farmaatey hain:

Hazrat Umar ؓ ka guzar Hassaan ibne Saabit ؓ par huwa jo masjid mein ash'ar padh rahe thhey. Hazrat Umar ؓ ne unhen gusse se dekha to woh kehne lagey: Main masjid mein aisi shakhsiyat ki maujoodgi mein she'r kehta tha jo aap se behtar thi. Phir hazrat Abu Hurairah ؓ se mukhatib ho kar kaha: Main aap ko Allah ki qasam de kar poochhta hoon, kya aap ne Allah ke Rasool ﷺ ko yun farmaatey nahin suna? "Meri taraf se kuffar-o-mushrikeen ko jawab do. Aye Allah, Rooh-ul-Qudus ke zariye iski madad farma"? Hazrat Abu Hurairah ؓ ne kaha: haan!

Abu Dawood ki riwayat mein hai: Hazrat Umar ؓ ko khauf huwa ke kahin hazrat Hassaan hazrat Umar ؓ par Nabi ﷺ ki mukhalafat ka ilzaam na laga den is liye unhon ne iski ijazat dedi. [Bukhari wa Muslim]

^۱ (حم د) [د بتحقیق الألبانی ۵۰۱۴] (صحیح)

عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: (١)
«تُنْفِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟
[قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا تُنْفِي بِذَلِكَ]» (٢)،

فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لَا، فَسَلْ فَلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟
قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ. [م: الحج ٣٨١ - (١٣٢٨)]

عن عمرو بن دينار

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلْحَائِضِ
أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ فِي الْإِفَاضَةِ». [حم ٣٥٠٥] (صحيح)

طاؤس کہتے ہیں:

میں عبد اللہ بن عباس ؓ کے ساتھ تھا جب زید بن ثابت ؓ نے کہا: آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ حائضہ عورت بیت اللہ کا آخری طواف کرنے سے پہلے روانہ ہو سکتی ہے؟ ابن عباس نے کہا: ہاں۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا: آپ ایسا فتویٰ نہ دیں۔ اس پر ابن عباس نے ان سے کہا: اگر تم نہیں مانتے تو فلاں انصاری خاتون سے جا کر پوچھ لو کہ کیا اللہ کے رسول ﷺ نے انہیں یہی حکم دیا تھا (یا نہیں)۔ طاؤس کہتے ہیں: پس حضرت زید بن ثابت ؓ (گئے اور تحقیق کر کے) ابن عباس ؓ کے پاس ہنستے ہوئے واپس لوٹے اور کہا: مجھے لگ ہی رہا تھا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ [مسلم]

عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ ابن عباس ؓ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے حائضہ کو اس بات کی رخصت دیدی کہ وہ طواف وداغ سے پہلے واپس روانہ ہو سکتی ہے بشرطیکہ اس نے طواف افاضہ کر لیا ہو۔ [مسند احمد]

Taa'oos kahte hain:

Main Abdullah ibne Abbas ؓ ke sath tha jab Zaid ibne Saabit ؓ ne kaha: Aap yeh fatwa dete hain ke haizah aurat baitullah ka aakhri tawaf karne se pahle rawana ho sakti hai? Ibne Abbas ne kaha: Haan. Hazrat Zaid ibne Saabit ne kaha: aap aisa fatwa na den. Is par Ibne Abbas ne un se kaha: Agar tum nahin maante to fulaan ansari khatoon se jaakar poochh lo ke kya Allah ke Rasool ﷺ ne unhen yahi hukm diya tha (ya nahin). Taa'oos kehte hain: Pas hazrat Zaid ibne Saabit ؓ (gaye aur tehqeeq karke) Ibne Abbas ؓ ke paas haste huwe wapas laute aur kaha: Mujhe lag hi raha tha ke aap sach keh rahe hain.

[muslim]

Amr ibne deenaar kehte hain ke Ibne Abbas ؓ farmaatey they ke Allah ke Rasool ﷺ ne haizah ko is baat ki rukhsat dedi ke woh tawaf-Widaa' se pahle wapas rawana ho sakti hai basharte ke us ne tawaf e ifaazah kar liya ho. [Musnad Ahmad]

١ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ مُقَاوَلَةٌ فِي ذَلِكَ فَقَالَ زَيْدٌ: لَا تُنْفِرُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ وَحَلَّتْ لِرُؤُوسِهَا، نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ، وَلَا تَنْتَظِرُ، فَقَالَتْ الْأَنْصَارِيُّ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّكَ إِذَا خَالَفْتَ زَيْدًا لَمْ تُتَابِعْكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَلُوا أُمَّ سُلَيْمٍ فَسَأَلُوهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَحْبَرَتْ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتُ حَبِيٍّ بِنِ أَحْطَبِ أَصَابَهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْحَبِيَّةُ لَكَ حَسْمِينَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: فَأَمَرَهَا أَنْ تُنْفِرَ، وَأَحْبَرَتْ أُمَّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا لَقِيَتْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْفِرَ. (حم) [مسند أحمد ط الرسالة ٢٧٤٢٧] (صحيح)

٢ (حم) [حم ط الرسالة ١٩٩٠] (صحيح)

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:
جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ
فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا
فَقَالَ: إِنِّي لِأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ
وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي. [خ: كتاب الأذان ۸۲۴]

ابو قلابہ ﷺ فرماتے ہیں:

ہمارے پاس مالک بن حویرث ﷺ آئے اور ہماری مسجد میں ہمیں نماز پڑھائی اور فرمایا: میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوں لیکن میرا ارادہ محض نماز پڑھنے کا نہیں ہے بلکہ میری نیت یہ ہے کہ میں تمہیں دکھاؤں کہ اللہ کے نبی ﷺ کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ [بخاری]

23. Logon ko sunnat ki ta'leem dena

Abu Qilabah ﷺ farmaatey hain:

Hamare paas Maalik ibne Huwairis ﷺ aaye aur hamari masjid mein hamein namaz padhayi aur farmaya: Main tumhen namaz padha raha hoon lekin mera irada mahez namaz padhne ka nahin hai balke meri niyyat yeh hai ke main tumhen dikhaon ke Allah ke Nabi ﷺ kis tarah namaz padha karte thhey. [Bukhari]

عَنْ وَرَادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ:

أَمَلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

[خ: الأذان ٨٤٤ - م: المساجد ١٣٧ - (٥٩٣)]

حضرت مغیرہ بن شعبہ کے کاتب وِراد فرماتے ہیں:

حضرت مغیرہ ﷺ نے مجھے ایک خط املا کر ایسا جو حضرت معاویہ ﷺ کیلئے تھا کہ اللہ کے نبی ﷺ اپنی فرض نمازوں کے بعد یوں کہا کرتے تھے:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»

(یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جسے تو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا؛ اور کسی مالدار کو

اس کی مالداری تجھ سے مستغنی نہیں کر سکتی۔ [بخاری و مسلم]

Hazrat Mugeerah ibne Shu'bah ke katib Warraad farmaatey hain:

Hazrat Mugeerah ﷺ ne mujhe ek khat imla karaya jo hazrat Muawiyah ﷺ ke liye tha ke Allah ke Nabi ﷺ apni farz namazon ke baad yun kaha karte thhey:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»

(Ya'ni Allah ke siwa koi maabood e barhaq nahin, woh akela hai, uska koi shareek nahin, usi ki baadshaahi hai aur usi ke liye ta'reef hai, aur woh har cheez par qaadir hai. Aye Allah, jise tu ata karey us se koi rok nahin sakta aur jis se tu rok le usey koi ata nahin kar sakta; aur kisi maaldaar ko us ki maaldaari tujh se mustagni nahin kar sakti.

[Bukhari wa Muslim]

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ

يَضَعُ فِي رِجْلَيْ الْكَبَلِ وَيُعَلِّمُنِي الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ.

[سنن الدارمی: المقدمة ۵۷۲] (إسناده صحيح)

عکرمہ فرماتے ہیں:

ابن عباس میرے پاؤں میں بیڑی ڈال کر مجھے قرآن و سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ [دارمی]

Ikrimah farmaatey hain:

Ibne Abbas mere paaon mein bedi daal kar mujhe Quran-o-Sunnat ki ta'leem dete thhey. [Daarimi]

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ:

صَلَّيْتُ حَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ

فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ: «لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ». [خ: الجنائز ۱۳۳۵]

طلحہ بن عبد اللہ بن عوف فرماتے ہیں:

میں نے ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور کہا: (میں نے جہر اسی لیے کیا) تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ (یعنی جنازے کی نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا) سنت ہے۔ [بخاری]

Talha ibne Abdullah ibne Auf farmaatey hain:

Main ne Ibne Abbas ke peechhey janaaze ki namaz padhi to unhon ne surat-ul-fatiha padhi aur kaha: (Main ne jahr isi liye kiya) taake logon ko maaloom ho jaaey ke yeh (ya'ni janaaze ki namaz mein surat-ul-fatiha ka padhna) sunnat hai. [Bukhari]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً،

فَاسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ،

[فَلَمَّا خَرَجُوا] ^(۱) فَغَضِبَ، [وَبِي رِوَايَةٍ: فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ] ^(۲)

فَقَالَ: أَلَيْسَ أَمْرُكُمْ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى،

قَالَ: فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا، فَجَمَعُوا، فَقَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا، فَأَوْقَدُوهَا،

فَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَهَمُّوا، [فَأَبَى قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا] ^(۳)

وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمَسِّكُ بَعْضًا، وَيَقُولُونَ: [إِنَّمَا] ^(۴) فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ النَّارِ،

[وَبِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ لَهُمْ شَابٌّ مِنْهُمْ: إِنَّمَا فَرَرْتُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّارِ،

فَلَا تَعَجَلُوا حَتَّى تَلْقُوا النَّبِيَّ ﷺ، فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوهَا فَادْخُلُوهَا] ^(۱)

فَمَا زَالُوا حَتَّى حَمَدَتِ النَّارُ، فَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ،

فَقَالَ [لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا] ^(۵): «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

[وَقَالَ لِلْآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا] ^(۶) [وَقَالَ: «أَحْسَنْتُمْ»] ^(۷)

[وَقَالَ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا] ^(۱) الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ».

[خ: المغازي ۴۳۴۰ - م: الإمارة ۴۰ - (۱۸۴۰)] والسياق للبخاري

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

اللہ کے رسول ﷺ نے ایک لشکر روانہ کیا تو ایک انصاری صاحب کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا اور سب کو حکم دیا کہ اس کی بات مانیں۔ جب وہ لوگ سفر میں نکل گئے تو انہوں نے کسی بات پر اس امیر کو بہت غصہ دلایا۔ اس نے کہا: کیا اللہ کے نبی ﷺ نے تمہیں میری بات ماننے کا حکم نہیں دیا تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ اس نے کہا: تو سب مل کر لکڑیاں جمع کرو۔ سب نے لکڑیاں جمع کیں۔ اس نے کہا: اب آگ جلاؤ۔ انہوں نے آگ جلائی۔ اس نے کہا: اب اس آگ میں کود جاؤ۔ بعض نے ارادہ کر بھی لیا [لیکن بعض لوگوں نے آگ میں کودنے سے انکار کر دیا] اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے لگے۔ انہوں نے کہا: ہم آگ سے بچنے ہی کے لیے تو نبی ﷺ کے پاس آئے تھے۔ [ان میں سے ایک نوجوان نے کہا: تم لوگ آگ سے بچنے ہی کے لیے نبی ﷺ کی طرف آئے تھے، لہذا جلد بازی نہ کرو جب تک کہ تمہاری ملاقات نبی ﷺ

^۱ [حم ۶۲۲] (صحیح)

^۲ [م: الإمارة ۴۰ - (۱۸۴۰)]

^۳ [د ۲۶۲۵] (صحیح)

^۴ [خ: أخبار الأحاد ۷۲۵۷ - م: الإمارة ۴۰ - (۱۸۴۰)]

^۵ [خ: أخبار الأحاد ۷۲۵۷ - م: الإمارة ۳۹ - (۱۸۴۰)]

^۶ [خ: أخبار الأحاد ۷۲۵۷ - م: الإمارة ۳۹ - (۱۸۴۰)] واللفظ لمسلم

^۷ [حب] [التعليقات الحسان ۴۵۴۸] (صحیح)

سے نہ ہو جائے۔ ہاں، اگر آپ ﷺ آگ میں کودنے کا حکم دے دیں تو کوڈ جانا (ورنہ نہیں)۔ [یہ لوگ ابھی اسی حال میں تھے کہ آگ وہ بجھ گئی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر جب یہ بات نبی ﷺ کو پہنچی تو [جن لوگوں نے آگ میں کودنے کا ارادہ کیا تھا] آپ نے ان سے کہا: اگر تم لوگ اس آگ میں کود جاتے تو قیامت تک اس سے باہر نہ نکلتے۔ اور [دوسرے لوگوں سے (جنہوں نے آگ میں کودنے سے انکار کر دیا تھا) فرمایا: تم نے اچھا کیا۔] [اور آپ نے فرمایا: اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرمانبرداری نہیں۔] [فرمانبرداری تو بھلے کاموں میں ہے۔] [بخاری و مسلم]

24. Mu'amalaat mein Nabi ﷺ ke faisle ka intezaar karna

Ali ibne Abee Taalib ؓ farmaatey hain:

Allah ke Rasool ﷺ ne ek lashkar rawana kiya to ek ansari sahab ko us lashkar ka ameer muqarrar kiya aur sab ko hukm diya ke uski baat manen. Jab woh log safar mein nikal gaye to unhon ne kisi baat par us ameer ko bahot gussa dilaya. Us ne kaha: Kkya Allah ke Nabi ﷺ ne tumhen meri baat maanne ka hukm nahin diya tha? Unhon ne kaha: Haan. Us ne kaha: To sab mil kar lakdiyaan jama karo. Sab ne lakdiyaan jama kin. Us ne kaha: Ab aag jalao. Unhon ne aag jalayi. Us ne kaha: Ab is aag mein kood jao. Baaz ne iradah kar bhi liya [lekin baaz logon ne aag mein koodne se inkaar kar diya] aur ek doosre ka haath paakadne lagey. Unhon ne kaha: Hum aag se bachney hi ke liye to Nabi ﷺ ke paas aaye thhey. [Un mein se ek naujawan ne kaha: Tum log aag se bachne hi ke liye Nabi ﷺ ki taraf aaye thhey, lihaza jald baazi na karo jab tak ke tumhari mulaqaat Nabi ﷺ se na ho jaeay. Haan, Agar aap ؓ aag mein koodne ka hukm de den to kood jana (warna nahin).]

Yeh log abhi isi haal mein thhey ke woh aag bujh gayi aur Ameer ka gussa bhi thanda ho gaya. Phir jab yeh baat Nabi ﷺ ko pahunchi to [jin logon ne aag mein koodne ka irada kiya tha] aap ne un se kaha: Agar tum log us aag mein kood jaate to Qiyamat tak us se bahar na nikalte. Aur [doosre logon se (jinhon ne aag mein koodne se inkaar kar diya tha) farmaya: Tum ne achcha kiya.] [aur aap ne farmaya: Allah ki na farmaani mein kisi ki farma-bardari nahin.] [farma-bardaari to bhale kamon mein hai.]

[Bukhari wa Muslim]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

لَمَّا فُيِّضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ،
[فَقَالَ نَاسٌ: يُدْفَنُ عِنْدَ الْمَنْبَرِ، وَقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ بِالْبَيْعِ] (۱)،
[لَمْ يَدْرُوا أَيْنَ يَقْبُرُونَ النَّبِيَّ ﷺ، حَتَّى] (۲) قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ،
قَالَ: «مَا فَبِضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُجِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ»،
ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ. (ت) [ت بتحقيق الألباني ۱۰۱۸] (صحيح)

عائشہ ﷺ فرماتی ہیں:

جب اللہ کے رسول ﷺ کی وفات ہوئی تو صحابہ میں آپ کی تدفین کے معاملے میں اختلاف ہوا۔ [بعض لوگوں نے کہا: آپ کو منبر کے پاس دفن کرنا چاہیے اور بعض نے کہا: آپ کو بقیع ہی میں دفن کرنا چاہیے۔] [کسی کو معلوم نہ تھا کہ واقعی اللہ کے نبی ﷺ کو کہاں دفن کرنا چاہیے،] یہاں تک کہ ابو بکر صدیق ﷺ نے فرمایا: میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے ایک بات سنی تھی جسے میں کبھی نہیں بھولا۔ آپ فرماتے تھے: اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اسی جگہ موت دیتا ہے جہاں اس نبی کو پسند ہوتا ہے کہ اسے دفن کیا جائے۔ پس تم لوگ اللہ کے نبی ﷺ کو وہیں دفن کرو جہاں (وفات کے وقت) آپ کا بچھونا تھا۔ [ترمذی]

25. Ikhtilaf-e-raaye ke waqt sunnat se faisla karna

Aaisha ﷺ farmati hain:

Jab Allah ke Rasool ﷺ ki wafaat huwi to sahaba mein aap ki tadfeen ke muamle mein ikhtilaaf huwa. [Baaz logon ne kaha: Aap ko mimbar ke paas dafn karna chahiye aur baaz ne kaha: Aap ko baqee' hi mein dafn karna chahiye.] [kisi ko maloom na tha ke waqai Allah ke Nabi ﷺ ko kahan dafn karna chahiye,] yahan tak ke Abu bakr Siddeeq ﷺ ne farmaya: Main ne Allah ke Rasool ﷺ se ek baat suni thi jisey main kabhi nahin bhula. Aap farmaatey thhey: Allah Ta'ala apne Nabi ko usi jagah maut deta hai jahan us Nabi ko pasand hota hai ke usey dafn kiya jaaey. Pas tum log Allah ke Nabi ﷺ ko wahien dafn karo jahan (wafaat ke waqt) aap ka bichhona tha. [Tirmizi]

۱ [ط ت الأعظمي (۲/ ۳۲۳) رقم ۷۹۰] (صحيح)

۲ (حم) [مسند أحمد ط الرسالة (۱/ ۲۰۶) رقم ۲۷] (حدیث قوي بطرقه)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
إِنَّا نَقْتَدِي وَلَا نَبْتَدِي، وَنَتَّبِعُ وَلَا نَبْتَدِعُ، وَلَنْ نَضِلَّ مَا تَمَسَّكْنَا بِالْأَثَرِ.
[شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائني رقم ۱۰۶ إعلام الموقعين ج ۴ ص ۱۵۰]

عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں:

ہم اقتداء کرتے ہیں ابتداء نہیں، ہم اتباع کرتے ہیں، بدعتیں نہیں گھڑتے۔ اور جب تک ہم (نبی ﷺ کے) آثار کو تھامے رہیں ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ [شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ للالکائی، اعلام الموقعین]

26. Bid'at se nafrat

Abdullah ibne Mas'ood ؓ farmaatey hain:

Hum iqtida karte hain ibtida nahin, hum itteba' karte hain, bid'atein nahin ghadte. Aur jab tak hum (Nabi ﷺ ke) aasaar ko thaame rahen hum gumraah nahin ho sakte.

[Sharh Usul I'tiqad Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah lil-Laalikaani, A'lam al-Murwaqqi'in]

عَنْ عَمْرٍو بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ:

كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ،

فَإِذَا خَرَجَ مَشِينَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ،

فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعْدُ؟

قُلْنَا: لَا فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعاً

فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آيَةً أَمراً أَنْكَرْتُهُ وَلَمْ أَرَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا خَيْراً.

قَالَ: «فَمَا هُوَ؟» فَقَالَ: إِنْ عَشْتِ فَسْتَرَاهُ -

قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْماً حَلَقاً جُلُوساً يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ،

فِي كُلِّ حَلَقَةٍ رَجُلٌ وَفِي أَيْدِيهِمْ حَصَى،

فَيَقُولُ: كَبُرُوا مِائَةً فَيَكْبُرُونَ مِائَةً، فَيَقُولُ: هَلَلُوا مِائَةً فَيَهْلَلُونَ مِائَةً،

وَيَقُولُ: سَبَّحُوا مِائَةً فَيَسَبِّحُونَ مِائَةً.

قَالَ: «فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ؟»

قَالَ: مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئاً أَنْتَظَرُ رَأْيَكَ أَوْ أَنْتَظَرُ أَمْرِكَ.

قَالَ: «أَفَلَا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّوا سَبِّاتِهِمْ، وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ.»

ثُمَّ مَضَى وَمَضِينَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى حَلَقَةً مِنْ تِلْكَ الْحَلِيقِ

فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «مَا هَذَا الَّذِي أَرَأَيْتُمْ تَصْنَعُونَ؟»

قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَصَى نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ.

قَالَ: «فَعُدُّوا سَبِّاتِكُمْ، فَإِنَّا ضَامِنٌ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ،

وَيَحْكُمُ! يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! مَا أَسْرَعَ هَلَكْتُمْ!»

هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ مُتَوَافِرُونَ، وَهَذِهِ تِيَابُهُ لَمْ تَبَلْ وَأَنْبِئْتُهُ لَمْ تُكْسِرْ،

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ أَوْ مُفْتَتِحِي بَابِ ضَلَالَةٍ.»

قَالُوا: وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ.

قَالَ: «وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ!»

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَنَّ قَوْماً يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ

وَإِنَّمَا اللَّهُ مَا أَدْرَى لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ»، ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ.

فَقَالَ عَمْرٍو بْنُ سَلَمَةَ: رَأَيْنَا عَامَّةَ أَوْلِيكَ الْحَلِيقِ يُطَاعُونَا يَوْمَ النَّهْرِوَانِ مَعَ الْخَوَارِجِ.

(سنن الدارمي) [الصحيحه ٢٠٠٥] (قال الألباني: هذا إسناد صحيح)

عمر بن سلمة بن حارث رضي الله عنه فرماتے ہیں:

ہم فجر کی نماز سے پہلے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضي الله عنه کے دروازے پر بیٹھا کرتے تھے۔ جب وہ باہر آتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد کی طرف چلتے۔ ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضي الله عنه آئے تو پوچھا: کیا ابو عبد الرحمن باہر نکلے؟ ہم نے کہا نہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔

یہاں تک کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ باہر آئے۔ جب وہ باہر آئے تو ہم سب ان کے ساتھ چلنے کے لیے اٹھ گئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا: اے ابو عبد الرحمن، میں نے مسجد میں ایک نئی چیز دیکھی، لیکن الحمد للہ وہ مجھے خیر ہی لگی۔ انہوں نے پوچھا: کیا چیز؟ کہا: اگر آپ کی زندگی باقی رہی تو آپ بھی دیکھ لیں گے۔ میں نے مسجد میں دیکھا کہ کچھ لوگ حلقے بنا کر نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ہر حلقے میں ایک آدمی ہے اور سب کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں۔ وہ آدمی حلقے والوں سے کہتا ہے: سو بار اللہ اکبر کہو تو وہ سو بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے سو بار لا الہ الا اللہ کہو تو سب لوگ سو بار سبحان اللہ کہتے ہیں۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: پھر تم نے ان لوگوں سے کیا کہا؟ وہ بولے میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، میں بس آپ کی رائے اور آپ کے حکم کے انتظار میں تھا۔ فرمایا: کیا تم نے ان سے نہیں کہا کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں اور تم اس کی ضمانت لیتے ہو کہ اللہ ان کی نیکیاں ضائع نہیں کرے گا؟ پھر مسجد کی طرف روانہ ہوئے اور ہم بھی ان کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ (مسجد میں) ان حلقوں میں سے ایک حلقہ پر جا کر کھڑے ہو گئے اور کہا: تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ لوگ بولے: اے ابو عبد الرحمن، یہ کنکریاں ہیں، ہم ان پر تکبیر، تہلیل اور تسبیح شمار کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: بلکہ تم اپنے گناہ شمار کرو، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ بُرا ہو تمہارا، اے امتِ محمد، کتنی جلدی تمہاری ہلاکت آپہنچی جبکہ ابھی تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے صحابہ موجود ہیں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یا تو تم ایک ایسے دین پر ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ ہدایت والا ہے یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنے والے لوگ ہو۔ وہ لوگ بولے: اے ابو عبد الرحمن، ہماری نیت تو خیر ہی کی تھی۔ فرمایا: کتنے خیر کا ارادہ کرنے والے خیر کو پانے والے نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کہ ایک قوم ایسی آئے گی جو قرآن پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہ بڑھے گا۔ اللہ کی قسم، میں نہیں جانتا، شاید ان کی اکثریت تم ہی میں سے ہوگی۔ پھر حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے۔

عمر و بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم نے دیکھا کہ ان حلقہ والوں میں سے اکثر لوگ نہروان کی جنگ کے دن خوارج کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف لڑ رہے تھے۔ [دارمی]

Amr ibne Salamah ibne Haris farmaatey hain:

Hum fajr ki namaz se pahle hazrat Abdullah ibne Mas'ood رضی اللہ عنہ ke darwaze par baitha karte thhey. Jab woh bahar aate to hum un ke sath masjid ki taraf chalte. Ek din hazrat Abu Moosa Ash'ari رضی اللہ عنہ aaye to poochha: Kya Abu Abdur Rahman bahar nikle? Hum ne kaha nahin, to woh bhi hamare sath baith gaye. Yahan tak ke Abdullah ibne Mas'ood رضی اللہ عنہ bahar aaye. Jab woh bahar aaye to hum sab un ke sath chalne ke liye uth gaye. Abu Moosa ash'ari رضی اللہ عنہ ne kaha: Aye Abu Abdur Rahman, main ne masjid mein ek naee cheez dekhi, lekin alhumdulillah woh mujhe khair hi lagi. Unhon ne poochha: Kya cheez? Kaha: Agar aap ki zindagi baaqi rahi to aap bhi dekh lenge. Main ne masjid mein dekha ke kuchh log halqe banaye namaz ke intizaar mein baithey hain. Har halqe mein ek aadmi hai aur sab ke hathoon mein kankariyan hain. Woh aadmi halqe walon se kehta hai: 100 baar Allahu akbar kaho to woh 100 baar Allahu akbar kehte hain. Woh kehta hai 100 baar laa ilaha illallah kaho to sab log 100 baar laa ilaha illallah kehte hain. Woh kehta hai 100 baar sub'haan-Allah kaho to sab log 100 baar sub'haan-Allah kehte hain.

Ibne Mas'ood رضی اللہ عنہ ne farmaya: Phir tum ne un logon se kya kaha? Woh bole: Main ne un se kuchh nahin kaha, main bas aap ki raye aur aap ke hukm ke intezaar mein tha. Farmaya: Kya tum ne un se nahin kaha ke woh apne gunah shumaar karen aur tum is ki zamanat lete ho ke Allah un ki nekiyan zaaye nahin kerega. Phir masjid ki taraf rawana huwe aur hum bhi unke sath chalte rahe yahan tak ke (masjid mein) un halqon mein se ek halqe par jakar khade ho gaye aur kaha: Tum log yeh kya kar rahe ho? Woh log bole: Aye Abu

Abdur-Rahman, yeh kankariyan hain, hum un par takbeer, tahleel aur tasbeeh shumaar karte hain. Ibne mas'ood ؓ ne kaha: Balke tum apne gunah shumaar karo, main is baat ki zamatan deta hoon ke Allah ta'ala tumhari nekiyon ko zaaye nahin karega. Bura ho tumhara, Aye ummat-e-Mohammad, kitni jaldi tumhari halakat aa pahunchi, jabke abhi tumhare saamne Nabi ﷺ ke itne saare Sahaba maujood hain, abhi Nabi ﷺ ke kapde puraane nahin huwe, aap ke bartan bhi nahin tootey. Us zaat ki qasam jis ke haath mein meri jaan hai, ya to tum ek aise deen par ho jo Muhammad ﷺ ke deen se ziyada hidaayat wala hai, ya phir tum gumraahi ka darwaaza kholne wale log ho. Woh log bole: Aye Abu Abdur-Rahman hamari niyyat to khair hi ki thi. Farmaya: Kitne khair ka iradah karne wale khair ko paane wale nahin hotey. Allah ke Rasool ﷺ ne hamein bata diya tha ke ek qaum aisi aayegi jo Quran padhegi lekin Quran un ke halaq se aage na badhega. Allah ki qasam main nahin jaanta, shayad un ki aksariyat tum hi mein se hogi. Phir hazrat Abdullah ibne Mas'ood ؓ wahan se chaley gaye.

Amr ibne Salmah ؓ farmaatey hain: Hum ne dekha ke un halqe waalon mein se aksar log Nahrawaan ki jung ke din khawarij ke saath mil kar hamare khilaaf lad rahe thhey.

[Daarimi]

